

روزمرہ زندگی سے متعلق انتہائی ضروری مسائل کا مرقع

# عنوان شریعت

تصنیف لطیف۔ علی حضرت، مجدد امام احمد رضا



ALAHAZRAT NETWORK

اعلیٰ حضرت نیٹ ورک

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

ALAHAZRAT NETWORK

اعلیٰ حضرت نیٹ ورک

[www.alahazratnetwork.org](http://www.alahazratnetwork.org)

## نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم ط

مسئلہ ۱ :

شوہراپنی بیوی کو قتل میت دے سکتا ہے یا نہیں اور بعد مرنے کے شوہراپنی بیوی کے جنازہ کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب:

جنازہ کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ قبر میں اتا ر سکتا ہے۔ اس کے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اسی واسطے قتل نہیں دے سکتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۲ :

میت کے سوم کے پنچ کا کس قدر وزن ہوتا چاہیئے اگرچہواروں پر فاتحہ دادی جائے تو ان کا کس قدر وزن ہو؟

الجواب:

کوئی وزن شرعاً مقرر نہیں۔ اتنے ہوں جس میں ستر ہزار عدد پورا ہو جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۳ :

اگر ایک عورت کو طلاق دی جاوے تو وہ عورت طلاق دینے سے کتنی مدت بعد نکاح کر سکتی ہے؟

الجواب:

طلاق کے بعد تین حیض شروع ہو کر ختم ہو جائیں اور حیض والی نہ ہو تو تین مہینے اور حاملہ ہو تو جب بچہ پیدا ہو جائے اگرچہ سال بھر بعد یا طلاق سے ایک ہی منٹ بعد۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴ :

تہبند کا چیخ کھول کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟

الجواب:

رسول اللہ ﷺ نے نماز میں کپڑا اسمیتے اور گھرنے سے منع فرمایا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۵ :

اگر تہبند کے نیچے لگوٹ بندھا ہو تو نماز درست ہو گی یا نہیں؟

الجواب:

درست ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۶ :

بکھلی کیا شے ہے؟

الجواب:

اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے چلانے پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کا نام رعد ہے۔ اس کا قد بہت چھوٹا ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت بڑا کوزا ہے جب وہ کوزا بادل کو مرتا ہے۔ اس کی تری سے آگ جھزتی ہے۔ اس کا نام بکھلی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۷ :

اگر مقتدی عمامہ باندھے ہوں اور امام کے سر پر عمامہ نہ ہو تو نماز درست ہو گی یا نہیں؟

الجواب:

نماز بالاکلف درست ہو گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۸ :**

ایک شخص تہائماز پڑھتا ہے اگر اس کو ہو جائے تو سجدہ کہا یک ہی طرف سلام پھیرنے سے درست ہو گا یادوں طرف؟

**الجواب:**

ایک ہی طرف سلام پھیرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۹ :**

قاضی کو نکاح پڑھانے کا روپیہ لینا جائز ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

حسب مرضی اہل معاملہ بلا جزو کراہ پہلے سے مقرر کر کے لے سکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۱۰ :**

کفار سے سودا اور رشوت لینا مسلمان کو جائز ہے یا نہیں اور ہندوستان دارالحرب یا دارالسلام؟

**الجواب:**

سودا اور رشوت مطلقاً حرام ہیں۔ ہندوستان دارالحرب نہیں دارالسلام ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۱۱ :**

کافر کے ہمراہ مسلمانوں کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

سمانع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۱۲ :**

ہندو کے بیہاں شیرنی پر فاتحہ دینا جائز ہے یا نہیں اور اس کے گھر کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

اویٰ یہ ہے کہ فاتحہ کے لئے شیرنی مسلمانوں کے بیہاں کی ہو اور ہندو کے بیہاں کا گوشت حرام ہے۔ باقی کھانوں میں مفہاً تقدیمیں اگر کوئی وجہ شرعی مانع نہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۱۳ :**

شرعاً لڑکا اور لڑکی کتنی عمر میں بلوغ کو پہنچتے ہیں؟

**الجواب:**

لڑکا کم سے کم بارہ برس میں اور لڑکی تو برس میں اور زیادہ سے زیادہ دنوں پندرہ برس میں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۱۴ :**

اگر حالات جنابت میں عورت مر جائے تو ایک ہی غسل کفایت کرتا ہے یا دو؟

**الجواب:**

ایک ہی غسل کافی ہے اگر چہ تین جمع ہو جائیں۔ مثلاً عورت کو حیض آیا ابھی نہ ہائی تھی کہ جماع کیا۔ ابھی غسل کرنے نہ پائی کہ مر گئی۔ ایک ہی غسل دیا جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۱۵ :**

اویٰ میں سب سے زیادہ کس کا مرتبہ ہے؟

**الجواب:**

حمدیات اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۱۶ :**

موزہ پہننے سے جو ختنے بند ہو جاتے ہیں۔ اس سے نماز میں تو کوئی فتوٰ نہیں آتا؟

**الجواب:**

نماز میں اس سے اصلاً کوئی حرج یا کراہت نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۷ :

بید کی کڑی ہاتھ میں رکھنا چاہیے یا نہیں؟

**الجواب:**

خود اس میں حرج نہیں مگر پلا بید ٹیز ہے سر کا حصہ لیبا یا سیس ہاتھ میں لے کر بلاتے ہوئے چنان شیاطین کا وضع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۸ :

اہل بیت میں کون کون سے ہیں؟

**الجواب:**

حضرت رسول زہرا کی اولاد امجد اہل بیت ہیں۔ پھر علی و عقیل و عسکر و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اولاد اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اہل بیت ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۹ :

حضرت قاطر رضی اللہ عنہ کی فاتحہ کا کھانا مردوں کو کھانا چاہیے یا نہیں؟

**الجواب:**

چاہیے کوئی ممانعت نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۲۰ :

اولیا کے مزار پر چادر چڑھانا جائز ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

جاائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۲۱ :

کھانے کے ساتھ پانی رکھنا فاتحہ کے واسطے درست ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

درست ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۲۲ :

داڑھی میں ذھانہ باندھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

منع ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز میں بالوں کے روکنے سے منع فرمایا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۲۳ :

ضرورت کو حرام چیز میں لانا جائز ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

اگر بھوک یا پیاس سے مرتا ہو اور کوئی حلال شے پاس نہیں اور جانے کہ اگر اس وقت کچھ کھائے پئے گا نہیں تو مر جائے گا۔ اسی صورت میں حرام چیز کھانا پینا اور اس قدر جس سے اس وقت جان بیج جائے جائز ہے یونہی اگر سردی بہت سخت ہے اور پہنچنے کو حرام کپڑے کے سوا کچھ نہیں اور نہ پہنچنے تو مر جائے گا یا ضرر پائے گا تو اتنی دیر پہن لانا جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۲۴ :

ہندو فقیر اللہ کی منزل تک پہنچتے ہیں یا نہیں؟

**الجواب:**

ہندو ہو خواہ کوئی کافروں اللہ تعالیٰ کے غصب و لغت تک پہنچتے ہیں جو یہ گمان کرے کہ کافر بغیر اسلام لائے اللہ تک پہنچ سکتا ہے وہ خود کافر ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۲۵ :

وضو کے پانی سے استنجا کرنا درست ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

درست ہے بہتر نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۲۶ :**

وئی شے کو دینی شے سے نسبت دینا جائز ہے یا نہیں۔ مثلاً کوئی یوں کہے فلاں عورت مثل حور کے ہے؟

**الجواب:**

اس مثال میں حرج نہیں۔ ہاں جہاں دینی شے کی بہرمتی لازم آئے وہ ناجائز ہے بلکہ کبھی کفر تک پہنچے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۲۷ :**

پارہ وفات یعنی ماہ ربيع الاول میں اگر عورت میں سکی سرمه لگائیں یا رنگ کر کپڑا پہنچیں تو کچھ حرج نہیں؟

**الجواب:**

کوئی حرج نہیں اگر سوگ کی نیت سے چھوڑیں تو حرام ہے اسی طرح محرم شریف میں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۲۸ :**

اگر یوں کانہ ہب شوہر کے خلاف ہو تو اولاد حرام ہو گی یا حلال؟

**الجواب:**

اگر ان میں سے کسی ایک کی بد نہ ہبی حد کفر تک پہنچتی ہو تو اولاد حرام نہ ہو گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۲۹ :**

شراب پینا خدا کے راست سے روکتی ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

بے شک ضرور روکتی ہے اور اس کے پینے والے پر اللہ اعلیٰ کرتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۳۰ :**

کرمیں پیکا باندھ کر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

درست ہے گرداں اس کے نیچے وہ بجاۓ، واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۳۱ :**

واڑھی کو وسہ یا مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

وسہ لگانا حرام ہے۔ مہندی لگانا جائز بلکہ سنت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۳۲ :**

بعد نماز فجر اور آفتاب طلوع ہونے سے قبل قرآن شریف کی حلاوت کرنا جائز ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

بے شک جائز ہے بلکہ وہ بہت اعلیٰ وقت ہے جب تک آفتاب طلوع نہ کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۳۳ :**

الہامت و الجماعت قرآن شریف میں صاد کو دوادیکوں پڑھتے ہیں اور رافضی لوگ دوادیکوں نہیں پڑھتے؟

**الجواب:**

ظاہر، دواد دنوں غلط ہیں۔ مخرج سیکھنا اور اس کا استعمال کرنا فرض ہے۔ رافضیوں سے جب نہ نکل سکا انہوں نے قرآن مجید کے حرف کو قصد ابدل دیا یہ کفر ہے۔

**مسئلہ ۳۴ :**

طلاق کتنی مرتبہ دینے سے عورت نکاح سے باہر ہو سکتی ہے؟

**الجواب:**

تین مرتبہ طلاق ہو جائے تو عورت نکاح سے ایسی باہر ہو جائے کہ بے حلال اس سے نکاح نہیں کر سکتا اور تین مرتبہ سے کم کے لئے کچھ الفاظ مقرر ہیں کہ ان سے نکاح جاتا رہتا ہے مگر بے حلال نکاح پھر کر سکتا ہے اور ابھی عورت سے خلوت کی نوبت نہیں چیخی ہو تو کسی لفظ سے ایک ہی طلاق دینے سے عورت نکاح سے باہر ہو جاتی ہے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۳۵:**

اگر عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے کسی غیر کے گھر حلی جائے تو اس کا نکاح درست رہے گا یا نہیں؟

**الجواب:**

درست رہے گا ہاں عورت گھنگار ہو گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۳۶:**

اگر جنابت کی حالت میں سہوا کوئی شخص نماز پڑھ لے اور بعد نماز پڑھنے کے اس کو یاد ہوا کہ میں ناپاک تھا تو اب وہ نماز بعد عذر کے دھراۓ یا نہیں؟

**الجواب:**

ضرور نہما کر پڑھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۳۷:**

مرد کو شوقیہ یا ضرورت سونے چاندی کی انگوٹھی پہننا چاہیے یا نہیں؟

**الجواب:**

سو نے کی انگوٹھی مرد کو مطلقاً حرام ہے یونہی چاندی کی دو یادو سے زیادہ انگوٹھیاں یونہی ایک انگوٹھی جس میں کئی گنگ ہوں یونہی ایک انگوٹھی جس میں ۲/۱۔۲ ماسٹے چاندی ہو تو صرف ایک انگوٹھی ایک گنگ کی سائز ہے چار ماسٹے سے کم چاندی کی شوقیہ یا مہروغیرہ کی حاجت سے مرد کو جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۳۸:**

ایک شخص نماز پڑھتا ہے اگر اس کے سامنے سے دوسرا شخص نکل جائے تو وہ شخص کتنے فاصلے پر نکل جانے سے گھنگار ہو گا؟

**الجواب:**

مکان یا چھوٹی مسجد میں دیوار قبلہ تک بغیر آڑ کے لکھا حرام ہے اور جگل یا بڑی مسجد میں تین گز کے فاصلے کے بعد لکھا جائز ہے۔ ۲۷، ۲۸، ۲۹ مساحت کی جو مسجد ہو وہ بڑی مسجد ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۳۹:**

اگر بیل یا کتا وغیرہ آدمی کی چیزوں کا نقصان کرتے ہوں یا کاث کھاتے ہوں تو ان کا مارڈ انادرست ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

کائنے ہوں تو قتل درست ہے۔

**مسئلہ ۴۰:**

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فاتحہ ذہک کر دینا چاہیے یا کھول کر؟

**الجواب:**

دونوں طرح درست ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۴۱:**

ہندوقصاب کے ہاتھ کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

حرام ہے مگر اس صورت میں کہ مسلمان نے ذبح کیا اور مسلمان کی ٹکاہ سے غائب ہونے سے پہلے اس مسلمان خواہ دوسرے نے اس میں سے لیا تو جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۴۲:**

نماز میں مت ترک کر دینے سے بجدہ ہو گا یا نہیں؟

**الجواب:**

بجدہ ہو صرف واجب ترك سے ہے سنت سے نہیں ہاں نماز مکروہ ہو گی پھرنا بہتر ہے اور بلا وجہ شرعی ترك کی عادت کر لے تو گنہگار ہو گا۔ واللہ تعالیٰ عالم۔

**مسئلہ ۴۳:**

ان پانچ روز میں جو روزہ رکھنا یعنی ایک عید الفطر اور چار عید اضھری کے تو اس کی کیا وجہ ہے؟

**الجواب:**

یہ دن اللہ عزوجل کی طرف سے ہندوؤں کی طرف سے ہیں۔ واللہ تعالیٰ عالم۔

**مسئلہ ۴۴:**

اس میں کیا حکمت ہے کہ فرضوں میں دور کعت خالی اور دو بھری پڑھی جاتی ہیں اور سنت اور نقویں میں چاروں بھری؟

**الجواب:**

نماز میں صرف دو ہی رکعتوں میں تلاوت قرآن مجید ضرور ہے۔ سنت و نقل کی ہر دو رکعت جدا گانہ ہیں لہذا اور رکعتوں میں قرأت لازم ہو تو چاروں بھری ہوں گی واللہ تعالیٰ عالم۔

**مسئلہ ۴۵:**

حقد پینا افیون کھانا یا کوئی دوسرا نشوائی چیز کھانا جائز ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

افیون وغیرہ کوئی نئے کی چیز کھانا پینا مطلق حرام ہے۔ حقد کا دم لگانا جس سے حواس میں خلل آجائے جیسا بعض جاہل رمضان شریف میں کرتے ہیں۔ حرام ہے۔ بغیر اس کے حد مباح ہے۔ ہاں بودار کثیف ہو تو خلاف اولی ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔

**مسئلہ ۴۶:**

مسجد میں مٹی کا تیل جلانا چاہیئے یا نہیں؟

**الجواب:**

لوگی وجہ سے حرام ہے اگر اسی ترکیب کریں کہ اس میں بواصلانہ ہے تو جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔

**مسئلہ ۴۷:**

کسی چیز کی سورت اگر جیب میں رکھے تو نماز درست ہو گی یا نہیں؟

**الجواب:**

نماز درست ہو گی مگر یہ فعل مکروہ و تا پسندیدہ ہے جبکہ کوئی ضرورت نہ ہو و پہیا شرمندی میں ضرورت ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔

**مسئلہ ۴۸:**

عورت کے ہاتھ کا ذبح جائز ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

مسلمان عورت کے ہاتھ کا ذبح جائز ہے جبکہ وہ ذبح کرنا جانتی ہو اور نحیک ذبح کرے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔

**مسئلہ ۴۹:**

وہابی الحمد شریف کے بعد آمین کیوں جہر سے پڑھتے ہیں؟

**الجواب:**

ان کا مقصد صرف مسلمانوں کی مخالفت ظاہر کر کے اپنا ایک گروہ جدا قائم کرنا ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔

**مسئلہ ۵۰:**

خلافہ چاقو چھری کے کسی دوسرے اوزار سے ذبح کرنا جائز ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

جاہز ہے جبکہ وہ دھاردار اور تیز ہو اور جانور کو زیادہ آزار نہ پہنچے۔ واللہ تعالیٰ عالم۔

زید نے کچھ روپے قرض واسطے تجارت میں کو دیئے اور آپس میں یہ بھرا لیا کہ علاوہ قرض کے روپیوں کے جس قدر منافع تجارت میں ہواں میں سے نصف ہمارا اور نصف تمہارا تو یہ سودا ہوا یا نہیں؟

الجواب:

یہ سودا اور حرام قطعی ہے۔ ہاں اگر روپیا سے قرض نہ دے بلکہ تجارت کے واسطے دے کہ روپیہ میرا اور محنت تیری اور منافع تصفات نصف تو جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

حقیقہ اور قرآنی کی ہدیٰ توڑنا چاہیے یا نہیں؟

الجواب:

کوئی حرج نہیں اور حقیقت میں نہ توڑیں تو زیادہ اچھا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

جس شخص نے صبح کی نماز نہ پڑھی ہو تو اس کی جمعہ اور عید کی نماز ہو گی یا نہیں؟

الجواب:

عید کی مطلقاً ہو جائے گی اور جمعہ کی بھی اگر صاحب ترتیب نہ ہو یعنی اس کے ذمہ پائی نمازوں سے زیادہ قضاچح ہو گئی ہوں اگرچہ ادا کرتے کرتے اب کم باقی ہوں اگر صاحب ترتیب ہے تو جب تک صبح کی نماز نہ پڑھ لے جمعہ نہ ہو گا۔ اگر صبح کی نماز اسے یاد ہے اور وقت اتنا بھک نہ ہو گیا ہو کہ صبح کی پڑھنے کو ظہر کا وقت ہی لکل جائے اور یہ جمعہ میں متوقع نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

عورت کو فاتحہ ناجائز ہے یا نہیں؟

الجواب:

جاائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

لڑکے کے عقیدہ کا گوشت لڑکے کے والدین اور داوی اور نانا، نانی کو کھانا چاہیے یا نہیں؟

الجواب:

سب کو درست ہے اور یہی صحیح ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

شادی میں دف یا نوبت بخوانا درست ہے یا نہیں؟

الجواب:

دف کی اجازت ہے جبکہ اس میں جانجھنہ ہوں اور مرد یا عزت دار عورت میں نہ بجا کیں نہ بھوپالعہ کے طور پر بھایا جائے بلکہ اعلان نکاح کی نیت ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اگر عورتیں مردوں کو سلام کریں تو کس طرح کریں؟

الجواب:

اپنے محارم مردوں کو سلام کریں۔ السلام علیکم کہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں قسم کیوں کھائی ہے؟

الجواب:

قرآن عظیم محاورہ عرب پر اتراء۔ عرب کی عادت تھی کہ جس امر کا اہتمام منتظر ہوتا ہے موکد بقیم کرتے معدہ اکفار مکہ کو حضور سید المرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم) کے صدق پر یقین کامل تھا۔ بعثت سے پہلے حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام ہی صادق اور ایمان کہا کرتے اور ایسا کامل الصدق کہ جس بات کو قسم سے موکد کر کے ذکر

فرمائے۔ خواہی نخواہی اس پر اعتبار آئے گا تو ان پر اتمامِ جھٹ کے لئے قسم ذکر فرمائی گئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۶۹:

کافر کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟

الجواب:

حرام ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۷۰:

عیدِ الاضحیٰ کے روز عقیقہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب:

جازز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۷۱:

اگر امام نماز پڑھتا ہو اور وہ کسی سورت میں درمیان میں دو ایک الفاظاً چھوڑ کر آگے کو پڑھے تو نماز ہو گی یا نہیں؟

الجواب:

اگر اسکے ترک سے معنی نہ بگزے تو نماز ہو گی ورنہ نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۷۲:

محصل اور مذہبی ذبح کیوں نہیں کی جاتی؟

الجواب:

ذبح کرنے سے خون نکلا مقصود ہوتا ہے اور محصلی و مذہبی میں خون نہیں ہوتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۷۳:

مردیت کے قبر کے تختے کس طرف سے رکھنا چاہیے؟

الجواب:

سرکی طرف اتوب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۷۴:

کیا قرآن شریف میں داڑھی رکھنے یا نہ رکھنے کا حکم ہے۔ اگر ہے تو کس جگہ ہے اگر نہیں ہے تو حدیث شریف میں کس جگہ سے سند لی گئی؟

الجواب:

رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں۔

### اخفو الشراب واعفو اللھی خالفو المجبوس

ترجمہ: لمیں پست کرو اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ آتش پرستوں کا خلاف کرو۔

نقیر نے اپنے رسالہ لمعۃ الفح فی اعفاء اللھخ۔۔۔ میں پانچ آنچوں اور چالیس سے زیادہ حدیثوں سے داڑھی رکھنے کا ثبوت دیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۷۵:

نمازی لوگ مسجدوں کے دروں اور امام صاحب کے برابر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آیا ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتی ہے تو وہ رانا چاہیے یا نہیں؟

الجواب:

مقتدیوں کو دروں میں کھڑا ہونا منع ہے۔ مگر نماز ہو جائے گی۔ تنہ گارہوں گے۔ امام کے برابر و مقتدی کھڑے ہو جائیں تو نماز مکروہ محتذہ ہی ہے، یعنی خلاف اولیٰ اور وہ سے زیادہ کھڑے ہو جائیں تو نماز مکروہ تحریکی۔ اس کا پھیرنا واجب ہے و اتفصیل فی فرا ونا واللہ تعالیٰ اعلم۔

قربانی تل بھینے فربہ کی جائز ہے یا نہیں۔ زید کہتا ہے ہمارے شہر یا گاؤں یا قصبه میں تل کی قربانی نہیں کی جاتی ہے اور جو نہیں کی جاتی ہے وہ مکروہ کے مراہر ہے ایسے شخص کے کہنے میں کچھ ایمان میں تو نقصان نہیں۔ اگر بھینے کے دو برس یا زائد عمر کی قربانی کی جاوے محلہ والے اس کو راجح کرنہ لیں تو گھنگھا ہوں گے یا نہ شہر بریلی میں تل کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں؟ عمر و کہتا ہے اسی ۸۰ برس سے دیکھتا ہوں کہ بریلی میں تل کی قربانی نہیں ہوتی اس کا کہنا غلط ہے یا صحیح؟

الجواب:

تيل بھينس کی قربانی بلاشبہ جائز ہے اس میں اصلاً کراہت نہیں۔ زید کا کہنا غلط ہے مگر اس کے کہنے سے ایمان میں کچھ فرق نہیں آتا۔ عالمگیری میں ہے۔  
**يكون من الاجناس الثلاثة الغنم والابل والبقر ويد خل في كل جنس نوعه والذكر والانثى معه والجاموس نوع من البقر۔**

محل والے اگر بھینے کا گوشت کخت ہوتا ہے پسند نہ کریں۔ اس وجہ سے نہ لیا تو برائی کیا کہ مسلمان کی دل بھنگ کی رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں

### لاتحرقون معروفا

اور اگر اسی خیال سے نہ لیا کر وہ بھینے کی قربانی ناجائز جانتے ہیں تو سخت جہالت میں ہیں انہیں حکم شرعی تحفیظ کیا جائے۔ تل کی قربانی لوگ اس خیال سے نہیں کرتے کہ وہ گائے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور گائے کا گوشت بھی تل سے بہتر ہوتا ہے اسی واسطے شرعاً بھی گائے کی قربانی تل سے افضل ہے جب کہ قیمت میں یکساں ہو عالمگیری میں ہے۔

**الا نشی من البقر افضل من الذكر اذا استوا يالان لحم الانثى اطيب كذا في فتاوى قاضى خان والله تعالى اعلم.**

مسئلہ ۶۷

تعزیر یہ بناستہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہو یا قرآن شریف کی کسی آیت یا حدیث سے سند پکڑے ایسا شخص علماء اہلسنت و اجماعت کے نزدیک خارج از اسلام تو نہ سمجھا جائے گا۔ اس پر کفر کا اطلاق جائز ہے یا نہیں اور یہ کیسے شروع ہوا ہے اگر سامنے آجائے پندرخثیر یا تعظیم سے دیکھنا چاہیئے یا نہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔

الجواب:

وہ جامل خطأ و ارتكاب ہے مگر کافرنہ کہیں۔ تعزیر آتا دیکھ کر اعراض و گردانی کریں اس کی جانب دیکھنا ہی نہ چاہیئے۔ اس کی ابتداء سناجاتا ہے کہ امیر تمور بادشاہ دہلی کے وقت سے ہوئی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۶۸

حضرت سیدنا بنت امام حسین رضی اللہ عنہ کا نکاح مصبب بن زید اور ان کے بعد کس کے ساتھ ہوا؟

الجواب:

متعدد نکاح ہوئے جن کی تفصیل نور الابصار وغیرہ کتب سیر میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۶۹

کیا مشنواری شریف میں کوئی شعر ایسا ہے جس سے معلوم ہو کہ تین دن تک ااش حضور سرور کائنات ﷺ بے تجھیز و تلفیز رکھی رہی جس کا یہ عقیدہ ہوا کہ کافر بھیں یا مسلمان؟

الجواب:

یہ محض جھوٹ ہے۔ مشنواری شریف میں ایسا شعر نہیں یہ ناپاک خیال راضیوں کا ہے ایسا شخص بد دین ہے مگر کافرنہ کہیں گے۔ ہاں حضور قدس ﷺ کی توبین شان کریم کے لئے ایسا بکتا ہے تو کافر و مرتد ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

محمد شریف میں مرثیہ خوانی میں شرکت جائز ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

ناجائز ہے کہ وہ مناہی و مکرات سے ملوہ ہوتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسلمانوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہو گا یا نہیں جسکا یہ اعتقاد ہو اس کو کیا کہیں گے؟

**الجواب:**

اہمست کا اعتقاد ہے کہ بیک اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنا دیدار کریم آخرت میں نصیب فرمائے گا اس کا مذکور گمراہ ہدوں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

زید مقتدی ہے۔ بکر امام، مغرب کی نماز ہو رہی ہے۔ درمیانی قعدہ میں بکرنے التحیات پڑھ کر اللہ اکبر کہا اور کھڑا ہو گیا مگر زید نے ابھی پوری التحیات نہیں پڑھی ہے پس زید کو التحیات پوری پڑھ کر کھڑا ہونا چاہیئے یا امام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیئے۔ برلندر یہ تانی اگر زید التحیات پوری کر کے کھڑا ہو تو وہ اتباع امام سے باہر ہو یا نہیں اور اس پر کچھ ازام ہے یا نہیں اور اس کی نماز ہوئی یا نہیں۔ بنیوا تو جروا؟

**الجواب:**

صورت مسئلہ میں زید پر واجب ہے کہ التحیات پوری ہی کر کے اٹھے اس میں امام کا اتباع ہے اگر اس سے خلاف کرے گا اور بغیر التحیات پوری کے امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو اتباع امام سے باہر ہو گا اور گنہ کار ہو گا اور نماز نا تھی ہو گی۔ امام نے تو التحیات پوری پڑھی اور یہ پڑھے کم تو اتباع کہاں ہوا۔ رہا قیام اس میں اتباع ہو جائے گا اگر چہ تاخیر کے اتباع میں یہ بھی داخل ہے کہ امام کے فعل کے بعد اس کا فعل واقع ہو یہاں تک کہ اگر کوئی شخص التحیات میں آگر شریک ہوا اور یہ بیٹھا ہی تھا کہ امام کھڑا ہو گیا تو اسے واجب ہے کہ پوری التحیات پڑھ کر کھڑا ہو۔ اگر چہ امام اتنی دریں تیسری رکعت کے قیام میں چلا جائے۔ یہ التحیات پوری کر کے کھڑا ہو۔ اور بقدر ایک شیخ کے دری کر کے رکوع میں وجود میں سلام تک کہیں جائے اور بالفرض کہیں نہ مل سکے تو حرج نہیں۔ امام کے فعل کے بعد اس کا ہر فعل ہوتا رہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

زید صبح کو ایسے نگہ وقت میں سوکرا لھا کہ صرف وضو کر کے نماز فجر ادا کر سکتا ہے مگر اس کو عمل کی حاجت ہے پس عمل کے کے فجر ادا کرنا چاہیئے یا وقت ختم ہو جانے کے خیال سے عمل کا تعمیم کر کے اور وضو کر کے نماز فجر ادا کرے اور بعدہ عمل کر کے نماز کا اعادہ کرے۔ بنیوا تو جروا؟

**الجواب:**

تعمیم کر کے نماز وقت میں پڑھ لے بعد کو نہا کر اعادہ کرے۔ یہ بیفتی واللہ تعالیٰ اعلم۔

قری میں بھی گرمی سردی بھی برسات میں ہوتے ہیں اور ہندی میں کیوں ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتے ہیں؟

**الجواب:**

موسموں کی تبدیلی خالق عزوجل نے گردش آفات پر کمی مثلاً تحول برج حمل سے ختم جواز تک فعل ریج ہے پھر تحول سرطان سے ختم سنبل تک گرمی پھر تحول میزان سے ختم قوس تک خریف پھر تحول چدی سے ختم خوت تک جاڑا۔ یہ آفتاب کا دورہ ہے کہ تقریباً ۳۶۵ دن اور پونے چھ گھنٹے میں کہ پاؤں کے قریب ہوا پورا ہوتا ہے اور عربی شرعی میں قری ہیں کہ ہلال سے شروع اور ۳۰ یا ۲۹ دن میں ختم ہوتے ہیں اور یہ بارہ میں یعنی قری سال ۳۵۵ یا ۳۵۶ دن کا ہوتا ہے تو شمشی سال دس یا گیارہ دن چھوٹا ہے، سمجھنے کے لئے کسرات چھوڑ کر شمشی سال ۳۶۵ قری ۳۵۵ ہی رکھئے کہ دس کا فرق ہوا۔ اب فرض کیجئے کہ کسی سال یکم رمضان شریف یکم جنوری کو ہوتی تو آئندہ سال ۲۲ دسمبر کو یکم رمضان ہو گی کہ قری میں ۳۵۵ دم میں ختم ہو جائیں گے اور شمشی سال پورا ہونے کو ابھی دس دن اور رکار ہیں پھر تیرے سال یکم رمضان ۱۲ دسمبر کو ہو گی۔ چوتھے سال یکم دسمبر کو ہو گی۔ تین برس میں ایک مہینہ بدلتی گیا پہلے یکم جنوری کو بھی اب دسمبر کو ہوئی۔ پوہ میں ہر تین برس میں ایک مہینہ بدلتے گا اور رمضان المبارک ہر شمشی میں دورہ فرمائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

بعض یہی حالت ہندی میں کی ہوتی اگر وہ یونڈنہ لیتے انہوں نے سال رکھا ششی اور میں کے قری تو ہر برس دس دن گھٹ گھٹ کرتیں برس بعد ایک مہینہ گھٹ گیا لہذا ہر تین سال پر وہ ایک مہینہ مقرر کر لیتے ہیں تاکہ ششی سال سے مطابقت رہے ورنہ بھی جیٹھے جاڑوں میں آتا اور پوہ گرمیوں میں بلکہ انصاری جنہوں نے سال و ماہ سب ششی لئے اگر ہر چوتھے سال ایک دن بڑھا کر فروری ۲۹ دن کی نہ کرتے ان کو بھی یہی صورت پیش آتی کہ بھی جون کا مہینہ جاڑوں میں ہوتا اور دسمبر گرمیوں میں یوں کہ ہر سال ۳۶۵ دن کا لیا اور آفتاب کا دورہ ابھی چھ گھنٹے بعد پورا ہو گا کہ جس کی مقدار تقریباً چھ گھنٹے

پہلے تیرے سال ۱۸ گھنٹے، چوتھے سال ۲۸ التریا پوچھیں گئے اور چوبیس گھنٹے کا ایک دن رات ہوتا ہے لہذا ہر چوتھے سال کا ایک دن بڑھا دیا کہ دورہ آفتاب سے مطابقت رہے لیکن دورہ آفتاب پورے جو گھنٹے زائد نہ تھا بلکہ تقریباً پونے چھ گھنٹے تو چوتھے سال پورے ۲۳ گھنٹے کا فرق نہ پڑتا تھا بلکہ ۲۲ گھنٹے کا اور بڑھا لیا ایک دن کے چوبیس گھنٹے ہیں تو یوں ہر چار سال میں ششی سال دورہ آفتاب سے کچھ کم ایک گھنٹہ بڑھے گا۔ سورس تقریباً ایک دن بڑھ جائے گا۔ لہذا صدی پر ایک دن گھٹا کر پھر فوری ۲۸ دن کا کریا اس طرح اور کسرات کا حساب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۷۵

عورتوں کو سونے کے زیورات پہننے کا ازروئے شرع کیا حکم ہے؟

الجواب:

عورت کو سونے چاندی کے زیور پہننا جائز ہیں۔

قال اللہ تعالیٰ وَمَن يَنْشُؤْ فِي الْحَلِيَّ

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

الذهب والحرير حل لاناث امتی واحرام على ذكرها

یعنی سونار شیم میری امت کی عورتوں کو حلال اور مردوں پر حرام ہے۔

رواہ ابو بکر ابن شیعہ عن زید بن ارقم والطبراني في الكبير عن عون وائلة رضي الله عنه بلکہ عورتوں کا گہنا پہننا یا واسطہ سکھار کرنا باعث اجر و ظلم اور ان کے حق میں نماز سے افضل ہے۔ بعض صالحات کے خود اور ان کے شوہروں کو صاحب اولیاء کرام سے تھے۔ ہر شب نماز عشاء پورا سکھار کر کے وہیں بن کر اپنے شوہر کے پاس آئیں اگر انہیں اپنی طرف حاجت مند پائیں وہی حاضر ورنہ زیور لباس اتار کر مصلی بچھائیں اور نماز میں مشغول ہو جائیں اور وہیں کو وجانا تو سنن تدبیحہ اور بہت احادیث سے ثابت ہے بلکہ کتواری لڑکیوں کو زیور سے آراستہ رکھنا کہ ان کی ملنگیاں آئیں یہ بھی سنن ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

لو كان اسامة جارية نكسوته وهلية حق الفقه رواه احمد وابن

ماجة عن امام المؤمنين رضي الله عنها۔

مدد حسن بلکہ عورت کا باوصف قدرت بالکل بے زیور رہنا مکروہ ہے کہ مردوں سے تشبیہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے۔

كان رسول الله ﷺ بكرة تعطر النساء وتشبهن بالرجال

مجموع المخاریل ہے۔

قیل اراد تعطل النساء بالامر وہی من لا اصلی عليه ولا خصاب ولا مراقب يتعابتان

حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا

يا على مرلن النساء ك لا تصلين عطاء

اے علی اپنی مخدرات کو حکم دے کر وہ بے گہنے نماز نہ پڑھیں

رواہ ابن اکیش فی التحایۃ ام المؤمنین صدیق رضی اللہ عنہا عورت کا بے زیور نماز پڑھنا مکروہ جانتیں اور فرماتیں اور کچھ شہ پائے تو ایک ڈوراہی گلے میں باندھ لے مجموع المخاریل ہے۔

من عائشه رضي الله تعالى عنها كرهت ان تصلى المرأة عطلا ولو ان تعلق في عنقها

بجتنے والا زیور عورت کے لئے اس حالت میں جائز ہے کہ نامحرموں مثلاً خالہ، ماموں، پچھا، پھوپھی کے بیٹوں، جیشودیور، بہنوئی کے سامنے نہ آتی ہونہ اس کے زیور کی جھنکارنا حرم تک پہنچے۔ اللہ عز وجل فرماتا ہے۔

**ولا يَدِين زَيْتَهُنْ لَا لَبِعُو لَتَهُنْ الْآيَة۔**

عورتیں اپنا سکھار شوہر یا حرم کے سوا کسی پر ظاہرنہ کریں

اور فرماتا ہے۔

**وَلَا يَضْرُبُنْ بَارِ جَلْهِنْ يَعْلَمْ مَا يَخْفِينْ مِنْ زَيْتَهُنْ**

عورتیں پاؤں دھمک سے نہ رکھیں کہ ان کا چھپا ہوا سنگار ظاہر ہو۔

واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسٹلہ ۷۶:**

دفع وباء کے لئے اذان درست ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

درست ہے۔ نقیر نے خاص اس مسئلہ میں رسالہ نسیم الصباتی ان الاذان يحول الوباء کھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسٹلہ ۷۷:**

اذان دینی واسطے بارش کے درست ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

درست ہے اذلا خطہ من الشرع۔ اذان ذکر الہی ہے اور بارش رحمت الہی اور ذکر الہی باعث نزول رحمت الہی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسٹلہ ۷۸:**

ہاتھی پر سوار ہونے کی حالت میں ہاتھی نے سوٹا اٹھا کر پھنکا را اور اس کی ناک یا حلق کے پانی کی چھینیں کپڑوں پر پڑیں۔ ایسی صورت میں کپڑے پاک رہے ہیں یا نہیں؟

**الجواب:**

اگر روپیہ بھر سے زیادہ جگہ میں پڑے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسٹلہ ۷۹:**

ہاتھی پر سوار ہونا جائز ہے یا ناجائز، بر تقدیر یا ثانی مکروہ ہے یا حرام؟

**الجواب:**

ہاتھی پر سوار ہونا مکروہ ہے اور امام محمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک حرام کروہ اسے مثل خنزیر بخش ایمین جانتے ہیں۔ بہر حال احتراز چاہیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسٹلہ ۸۰:**

حوض وہ دردہ سے مراد ہے وہ ہاتھ لسba اور وہ ہاتھ چوڑا ہے یا کچھ اور کیا اس حوض کی گہرائی بھی شرعاً مقرر ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

وہ دردہ سے مراد ہو ہاتھ ساحت ہے مثلاً وہ ہاتھ طول و عرض یا کچیں ہاتھ طول چار ہاتھ عرض یا پچاس طول دو ہاتھ عرض اور گہرائی اتنی چاہیئے کہ چلو لینے سے زمین نہ کھلتے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسٹلہ ۸۱:**

اسٹن حنادی یعنی وہ چوب خشک جس سے حضور پر نور (علیہ السلام) تکمیل کرو عظیز فرمایا کرتے تھے اور جس کا قصہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مشتوی شریف میں تحریر فرمایا ہے کہ اس کو حضور (علیہ السلام) نے دلن کیا اور اس کی نماز جائزہ پڑھی؟

**الجواب:**

نماز جائزہ پڑھنا غلط ہے اور منبر شریف کے نیچے دفن کرنا ایک روایت میں آیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسٹلہ ۸۲:**

ایک واعظ صاحب نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول کریم (علیہ السلام) نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم وحی کہاں سے اور کس طرح

لاتے ہو۔۔۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا کہ ایک پرده سے آواز آتی ہے۔ آپ ﷺ نے دریافت فرمایا۔۔۔ کہ تم نے کبھی پرده اٹھا کر دیکھا، انہوں نے کہا کہ میری یہ جال نہیں کہ پرده اٹھا سکوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اب کی بار پرده اٹھا کر دیکھنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ پردوے کے اندر خود حضور پرورد ﷺ جلوہ فرمائیں اور عمامہ سر پر باندھے ہیں اور سامنے شیشہ رکھا ہے اور فرمائے ہیں کہ میرے بندے کو یہ ہدایت کرنا۔ یہ روایت کہاں تک صحیح ہے۔ اگر غلط ہے تو اس کا بیان کرنے والا کس حکم کے تحت میں داخل ہے۔ پیرواتو جروا؟

#### الجواب:

یہ روایت محض جھوٹ اور کذب و افراہ ہے اور اس کا بیان بیان کرنے والا ابلیس کا مسخر ہے اور اگر اس کے ظاہر مضمون کا معتقد ہے تو صریح کافر ہے۔  
والله تعالیٰ اعلم۔

#### مسئلہ ۸۳:

زید اہل ہندو کے فقیروں (جن کو سنیا ہی کہتے ہیں) کی شکل بنائے رہتا ہے نگے پاؤں ایک ہاتھ میں رنگا ہو کپڑا باندھے اور ڈھنے رہتا ہے۔ ایک مسلمان سے مصافی کے لئے ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا وسر بھی لا تو کہا وسر ہاتھ میرا ہندو ہے ہے اسی زید کے پاس ایک ہندو لڑکے کو لایا کہ اسے اپنچیلہ ہنا لو۔ زید نے اس لڑکے کو ادم کھلا کر اپنا چیلہ بنا لیا با وجود ان ہاتھوں کے یہ زیبہ طریقت بنا ہے مسلمانوں کو مرید کرتا ہے کہ میں نے حدیث کی سند دیوبند سے حاصل کی ہے۔ یا اپنے آپ کو بزرگ خلیفہ کہتا ہے۔ بزرگیاں کے مسلمانوں کا پیر تھا؟

#### الجواب:

صورت مذکورہ میں وہ شخص اپنے اقرار سے آدھا ہندو ہے اور اسلام و کفر میں حصے نہیں جو ایک حصہ ہندو ہے وہ کل ہندو ہے تو یہ بنا اس کا اقراری کافر ہے اور اپنے کفر کا مقرر لفڑا عند اللہ تعالیٰ کافر ہے۔ فضول عمادی و فتاویٰ عالمگیری میں ہے۔

**مسلم قال انا ملحد یکفرو لو قال ماعلمت الکفر لا يعذوب هذا۔**

اور اس اوم کھلا کر چیلہ بنا اس کے کفر پر جزئی ہے اور دیوبندی سند سے استناد اس کے کفر پر تیسرا پاس ہے۔

کفار کی وضع بنائے پھرنا ہی اس کی خباثت حال کو کافی تھا رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

**من تشبه بقوم فهو منهم**

ان کفروں نے وضاحت کر دی اس کے ہاتھ پر بیعت حرام بلکہ اس کے کفریات پر مطلع ہو کر پھر اسے پیر بنا یا بعد اطلاع یہ دیکھتے رہنا خود کفر ہے۔  
والیاذ بالله تعالیٰ والله تعالیٰ اعلم۔

#### مسئلہ ۸۴:

بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بزرگی مریدی کرتا تھا۔ خاندان قادریہ میں کوئی صاحب قطب الدین کا خلیفہ تھا اور خاندان چشتیہ میں قاسم ناٹوی کا اپنے مریدوں کو دونوں شجرے دیتا تھا جو نسلک استثنائے نہ ہاں ہیں؟  
غمرو جس کی گواہی شریعت مطہرہ میں مقبول ہے کہتا ہے کہ بزرگ کا یہ واقعہ میرے سامنے گزرا کہ ایک شخص نے بزرگ سے کہا کہ بریلی کے علماء دیوبند والوں کو وہابی کہتے ہیں تو بزرگ نے غصہ میں آکر فوراً کہا جو شخص دیوبند والوں کو وہابی کہہ وہ خود وہابی ہے۔ بزرگ کے خلیفہ سے (جس کا حال مندرجہ بالا استفتی میں درج ہے) یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگ نے دیوبند میں حدیث کی سند حاصل کی ہے اب بزرگ کے مریدوں کو بزرگ سے بیعت توڑنا ضروری ہے یا نہیں ذرا تفصیل سے بیان فرمادیجھے مولیٰ تعالیٰ آپ حضرات علماء کرام کے اوقات میں برکت عطا فرمائے۔

#### الجواب:

مولیٰ عزوجل مسلمانوں پر اپنی رحمت رکھے۔ کیا علمائے کرام حرمین شریفین کے مبسوط و مفصل فتاویٰ مبارکہ حسام الحرمین علیٰ مخبر الکفر والیمن کے بعد کسی اور تفصیل کی ضرورت ہے اس میں دیوبندی کی نسبت صاف صریح تصریح ہے کہ

**من شک فی کفر فقد کفر**

جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے

نہ کہ مسلمان سمجھنا نہ کہ صاحب ارشاد جانانے کے پیرویا تا تو مرید ان بکر کو بیعت توڑنا کیا معمی بیعت ہے ہی نہیں توڑی کیا جائے گی ہاں اس پر فرض ہے کہ بکر کو پناہیں دینے یہ بھی اس کے مثل خارج از اسلام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

## وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ

اور فرماتا ہے

إِنَّكُمْ أَذَا مُتَّلِّهِمْ -

وَاللَّهُ عَلَىٰ إِلْحَامٍ -

مسئلہ ۸۵:

ہندہ زوجہ بکراں قدر مالیت کے زیور پہنچتی ہے کہ جن پر زکوٰۃ دینا فرض ہے کیا زکوٰۃ بکر پر فرض ہے یا ہندہ پر؟

الجواب:

اگر زیور جہز کا ہے یا بکرنے بنا کر ہندہ کو مالک کر دیا ہے تو زکوٰۃ ہندہ پر ہے بکر سے کچھ تعلق نہیں اور اگر زیور ملک بکر ہے ہندہ کو پہنچنے کو دیا ہے تو زکوٰۃ بکر پر ہے ہندہ سے تعلق نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۸۶:

ہندہ کے پاس سوائے ان زیورات کے نقدی کچھ نہیں بکراں کو ہر سال کے ختم پر زکوٰۃ ادا کرنے کے واسطے روپیہ اس شرط پر دینا چاہتا ہے کہ وہ یہ روپیہ اپنے قرض واجب الادائیعی مہر نکاح میں وضع کرتی رہے گی۔ کیا بکر کو اس طرح دینا اور ہندہ کو اس طرح بکر سے لے کر زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے؟

الجواب:

اس طرح دینا لیما دنوں جائز ہے اور دنوں کیلئے اجر ہے۔

مسئلہ ۸۷:

اگر بکر با وجود استطاعت ہندہ کو زکوٰۃ ادا کرنے کے واسطے ہندہ کو روپیہ نہ دے تو بکر پر شرعاً کچھ الزام ہے یا نہیں اور ایسی صورت میں ہندہ کو زیورات میں سے کسی زیور کو فروخت کر کے زکوٰۃ ادا کرنا ضرری ہو گا یا نہیں؟

الجواب:

شوہر پر کچھ الزام نہیں کہ عورت کی زکوٰۃ ادا کرے اگر نہ دے گا اس پر الزام نہیں عورت مالکہ زیور جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسے لازم ہے کہ جہاں سے جانے زکوٰۃ دے اگر چہ زیور ہی فقیر کو دے کر یا بھی کراس کی قیمت سے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۸۸:

زیورات مثلاً نوٹگے، جوش، بیکر، بدھی، پیچی وغیرہ ڈورے پڑے ہیں جیسا کہ عموماً عورتیں ہوں سے یہاں کر پہنچتی ہیں اور بعض زیورات مثلاً آرسی، بیکر، نوٹگے وغیرہ میں گنگ و ششے ہڑے ہیں۔ ایسی صورت میں زیورات کا وزن کس طرح کیا جاوے اگر ڈورے ونگ وغیرہ عیحدہ کے جاتے ہیں تو زیورات خراب ہوتے ہیں کیونکہ بعض میں جڑائی پتہ ہوتی ہے کیا زیورات کو من گنگ وغیرہ وزن کیا جائے اور کل وزن پر زکوٰۃ دی جائے یا اندازے سے گنگ و ڈورے کا وزن منہا کر دیا جائے۔

الجواب:

زکوٰۃ صرف سونے چاندی پر ہے لاکھ گنگ ششے ڈورے پر نہیں اگر جڑا اور زیور میں سونے چاندی کا وزن معلوم ہو فہما ورنہ زائد سے زائد اس کا تخمینہ کر لے جس میں یقین ہو کہ اس سے زائد نہ ہو گا۔ ہو گا تو کم ہو گا اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی ظرف میں پانی بھریں اور کائی کے ایک پلے میں زیور رکھ کر یہ پلے پانی میں اس طرح رکھیں کہ وسط میں رہے نہ تو پانی سے کچھ حصہ باہر ہونہ ظرف کی تہہ تک پہنچ جائے دوسرا پلہ ظرف کے باہر ہوا میں رکھیں۔ اب اس میں باث ڈالیں یہاں تک کہ کامنا برآ جائے یہ وزن صرف چاندی سونے کا ہو گا لگ لاکھ وغیرہ کا وزن اس میں نہ آئے گا۔ چند بار معلوم وزن ایسا میں امتحان کر کے دیکھیں اگر جواب صحیح آئے تو یہ طریقہ آسان ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۸۹:

ہندہ زکوٰۃ کا روپیہ بکر (اپنے شوہر) کو دے کر یہ کہتی ہے کہ تم یہ روپیہ میری طرف سے کسی مستحق اشخاص کو دے دو۔ بکراں روپیہ کو لے کر کسی دیگر شخص کو دیتا ہے کہ وہ ہندہ زوجہ بکر کی جانب سے بطور زکوٰۃ دے دے تو کیا ہندہ کو بکر کا وکیل بنانا اور بکر کو بعدہ کسی دوسرے کو وکیل بنانا جائز ہو گا۔

ہندہ کا اختیار ہے کہ اپنی طرف سے ادائے زکوٰۃ کا اپنے شوہر کو یا جسے چاہے وکیل کرے اور وکیل کو اختیار ہے کہ جس تین دن کو چاہے وکیل کرے۔

### فی اضحته الحانیة ثم وکالت الاشباء الوکیل یدفع الزکوٰۃ اذا وکل

### غیرہ ثم فدفع الاخر جازولا یتوقف.

مسئلہ ۹۰

کسی فقیر کو زکوٰۃ کا روپیہ کس قدر دیا جاسکتا ہے؟ یعنی زکوٰۃ دینے والا جس قدر چاہے اس کی دن یا دو دن کی ضرورت کے قابل۔

الجواب:

نقیر کو چھپن روپیہ سے کم دینا چاہئے۔ 1/2-7 تولہ 1/2-52 تولہ چاندی یا پورے چھپن روپیہ کی مالیت نہ دے جس سے وہ صاحب نصاب ہو جائے اور اگر اس کے پاس قدرے سونا یا چاندی نصاب سے کم حاجت سے زائد ہے تو اتنا نہ دے کہ اس سے مل کر نصاب ہو جائے وہ دس روپے کا مالک ہے تو اسے چھپا لیں روپے سے کم دے۔ ہاں جو کچھ دیا اس سے بقدر نصاب اس کی حاجت سے نہ بچے گا تو ہزاروں دے سکتا ہے مثلاً اس پر دس ہزار روپے قرض ہیں تو اسے دس ہزار دینے میں حرج نہیں کرو وہ اس قدر سے بھی مالک نصاب نہ ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۹۱

اہل ہندو کے میلوں مثل درہ وغیرہ میں مسلمانوں کا جانا کیا ہے۔ کیا میلوں میں جانے سے ان لوگوں کی عورتیں نکاح سے باہر ہو جاتیں ہیں۔ کیا تجارت پیشہ لوگوں کو جانا منوع ہے بنوا تو ہروا۔

الجواب:

ان کا میلا و یکھنے لئے جانا مطلقاً ناجائز ہے۔ اگر ان کا مذہبی میلا ہے جس میں وہ اپنا کفر و شرک کریں گے کفر کی آوازوں سے چلانیں گے جب تو ظاہر ہے اور یہ صورت سخت حرام مجملہ کہا رہے پھر بھی کفر نہیں۔ اگر کفری باتوں سے نافر ہے۔ ہاں معاذ اللہ ان میں سے کسی بات کو پسند کرے یا بلکہ جانے تو آپ ہی کافر ہے اس صورت میں عورت نکاح سے نکل جائے گی اور یہ اسلام سے ورنہ فتنہ ہے اور فتنہ سے نکاح نہیں جاتا پھر بھی وعید شدید ہے اور کفریات کو تماشا بنا ناطلال بعید ہے۔ حدیث میں ہے۔

**من كثراً سوداً قوم فهو منهم ومن رضي عمل قوم كان شريك من عمل به**

جو کسی قوم کا جھا بڑھائے وہ انہیں میں سے ہے اور جو کسی قوم کا کوئی کام پسند کرے وہ اس کام کرنے والوں کا شریک ہے

رواه ابو الحیلی فی مندوعلی بن معدی فی کتاب الطاعۃ والمحصیۃ عن عبد اللہ بن مسحود رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ ورواه الاسلام عبد اللہ بن مبارک فی کتاب الزید عن ابی ذر رضی اللہ عنہ میں قوله وہو عند الخطیب عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ من سود مع قوم فهو منهم اور ارمذہبی میلانہیں اہل عاب کا ہے جب بھی ممکن کہ مکرات و قبائی سے کالی ہو اور مکرات کا تماشا بنا جائز نہیں۔ روایتیں ہیں۔

**کره کل له و الاطلاق شامل النفس الفعل واستمامعه**

طحطاوی صدر کتاب بیان علوم حرمہ ذکر شعبدہ میں ہے۔

**يظهر بن ذلك حرمة التفرج عليهم لأن الفرجته على المحرم حرام۔**

یعنی شعبدہ باز بھاں متی بازی گر کے افعال حرام ہیں اور اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام کر حرام کا تماشا بنا حرام ہے۔

خصوصاً اگر کافروں کی کسی شیطانی خرافات کو چھا جانا تو آفت شد ہے اور اس وقت تجدید اسلام و تجدید نکاح کا حکم کیا جائے گا۔ غرزاں العيون میں ہے۔

اتفاق مشایخنا ان من رای امرالکفار رحسنا فقد کفرحتی قالو فی رجل ترك الكلام عنداکل  
الطعام حسن من المجروس و ترك المضاجعة عندهم حال الحيض حسن فهو۔

کافر اور اگر تجارت کے لئے جائے تو اگر میلان کے کفر و شرک کا ہے تو جانا ناجائز و ممنوع ہے کہ اب وہ جگہ ان کا معبد ہے اور معبد کفار میں جانا گناہ تھے  
پھر تاریخی پھر ہندیہ میں ہے

یکرہ للمسلم الدخول فی البيعة والکنیة وانما یکرہ من حيث انه مجمع الشیاطین  
بجرائم میں ہے۔

والظاهر انها تحريمية لأنها المرأة عند اطلاقهم

بلکہ رد المحتار میں ہے۔

فاز احرم الدخول والصلة اولی

اور اگر بیوی کا ہے اور خود اس سے بچے نہ اس میں شریک ہونے سے دیکھنے وہ جیزیں یعنی جو ان کے بیوی ممنوع ہوں تو جائز ہے۔ پھر بھی مناسب  
نہیں کہ ان کا مجع ہے۔ ہر وقت محل احتت ہے تو اس دوری اسی میں خیر والہذا اعلما نے فرمایا کہ ان کے محلہ میں ہو کر لکھ تو جلد لکھتا ہوا اگر زجائے۔ غنیمة  
ذوی الاحکام پھر طبع المعین پھر طبطاوی میں ہے۔ ہم محل نزول

اللغة في كل وقت ولاشك انه يكره السكون في جمع يكون كذلك  
بل وان يمر في الاماں بهر دل وبسرع قدرت دت بذلك آثار

اور اگر خود شریک ہو یا تماشاد کیجئے یا ان کے لہو ممنوع کی جیزیں یعنی تو آپ اسی گناہ و ناجائز ہے۔ در حقیقت میں ہے۔

قدمنا معزيا للنهرانا قامت المصيبة بيعه بکره بيعه تحت عاوان فستريها۔  
تفاوی عالمگیری میں ہے۔

اذا اراد المسلم ان يد خل دار الحرب للتجارة ومعه فرسه وسلامه  
وهو لا يريد بيعه منهم لم يمنع ذلك منه۔

ہاں ایک صورت جواز مطلق کی ہے وہ یہ ہے کہ عالم انہیں ہدایت اور اسلام کی طرف دعوت کے لئے جائے جب کہ اس پر قادر ہو یہ جانا حسن و محمود ہے اگر  
چہ ان کا مدد ہبھی میلان ہو ایسا تشریف لے جانا خود حضور سید عالم (علیہ السلام) سے بارہا ثابت ہے شرکیں کا موسم بھی اعلان شرک ہوتا۔ لبیک میں کہتے ہیں لا  
شرکیا ہو لک تحملک و مالک جب وہ سلبیا لاشریک لک تک اپنچھے۔ رسول اللہ (علیہ السلام) فرماتے ویکم فقط خرافی ہوتھارے لئے بس بس یعنی آگے استھانا  
نہ بجاو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۹۹:

بعد وفات میت قبر پر اذان دینا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب:

جاائز ہے۔ نقیر نے خاص اس مسئلہ میں رسالہ "ایذان الاجر فی اذان لا بقیر" کھا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

قرآن عظیم کس طرح جمع ہوا اور کس نے جمع کیا؟

### الجواب:

قرآن مجید کی جمع ترتیب آیات و تفصیل سورہ زمان اقدس حضور پر نور (صلی اللہ علیہ وسلم) میں با مرالی حسب بیان جبرائیل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام وارشاد و تعلیم حضور سید المرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم) واقع ہوئی تھی مگر قرآن عظیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سینوں اور مخفرق کاغذوں، پتھروں کی تختیوں، بکری، دنبہ کی پوستوں شانوں، پسلیوں وغیرہ میں تھا۔ ایک جگہ سارا قرآن مجموع تھا، جب جنگ یمانہ میں مسلمہ کذاب ملعون مدینیت سے زمانہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں ہوئی۔ صدھا صحابہ کرام حفاظ قرآن نے شہادت پائی۔ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل الہام منزل میں حضرت جل علی نے کیا کہ حضرت خلیفہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ اس لڑائی میں بہت سے صحابہ جن کے سینوں میں قرآن عظیم تھا، شہید ہوئے اگر یونہی جہادوں میں حفاظ شہید ہوتے گئے اور قرآن متحرر ہا تو بہت قرآن جاتے رہنے کا خطرہ ہے۔ میری رائے میں حکم دیجئے کہ قرآن عظیم کی سب سورتیں سمجھا کر لی جائیں۔ خلیفہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ان کی رائے پسند فرمائی اور حضرت زید بن ثابت وغیرہ حفاظ رضی اللہ عنہم کو امر جلیل کا حکم دیا کہ بعد اللہ تعالیٰ سارا قرآن سمجھا ہو گیا۔ ہر سوت ایک جدا صحیحہ میں تھی وہ صحیحہ تاحیات صدیق حضرت خلیفہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے بعد حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم اور ان کے بعد حضرت ام المؤمنین حصہ بنت الفاروق زوجہ سید المرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس رہے۔ عرب کی ہر قوم و قبیلہ بعض الفاظ کے تلفظ میں مختلف تھا مثلاً حرف میں کوئی الف لام کہتا کوئی الف میم اسی قسم کے بہت تفاوت ابھہ و طرز ادا میں تھے۔ زمانہ حضور اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) میں کہ قرآن عظیم نیا اتراتھا اور ہر قوم و قبیلہ کو اپنے ماوری ابھہ میں قدیمی عادت کا دفعتاً بدلت دیا اور تھا آسانی فرمائی گئی تھی کہ ہر قوم عرب اپنے طرز ابھہ میں قرات قرآن عظیم کرے۔ زمانہ نبوت کے بعد شدہ شدہ اقوام مختلف سے بعض لوگوں کے ذہن میں جنم گیا کہ جس ابھہ و لعنت میں ہم پڑتے ہیں اسی میں قرآن عظیم نازل ہوا ہے یہاں تک کہ زمانہ امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں بعض لوگوں کو اس بات پر جنگ وجدوں و زدو کوب کی نوبت پہنچی جب یہ خبر امیر المؤمنین کو پہنچی فرمایا ابھی سے تم میں اختلاف پیدا ہوا تو آئندہ کیا امید ہے لہذا حسب مشورہ امیر المؤمنین سیدنا علی الرضا کرم و جہہ الکریم و دیگر اعيان صحابہ رضی اللہ عنہم یہ قرار پایا۔ صحیحہ ائمہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کہ حضرت ام المؤمنین بنت الفاروق رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ ہیں۔ منکراں کی نقیلیں لے کر شہروں کو سمجھیں اور اصل آپ کو واپس دیں گے۔ ام المؤمنین نے بھیج دیے۔ ام المؤمنین نے زید بن ثابت و عبد اللہ بن زید و سعید بن عاص و عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ عنہم کو نقیلیں کرنے کا حکم دیا۔ وہ نقیلیں مکہ معظمہ و شام ویکن و بحرین و بصرہ کو سمجھی گئیں اور ایک مدینہ طیبہ میں رہی اور اصل صحیحہ جن سے یہ نقیلیں ہوئی تھیں۔ حضرت ام المؤمنین حصہ رضی اللہ عنہا کو واپس دیئے۔ ان کی نسبت معاذ اللہ فی ذکر نے یا کسی طرح تکف کر دیئے کا بیان مخفی جھوٹ ہے وہ مبارک صحیحہ خلافت عثمانی پھر خلافت مرتضوی پھر خلافت امام حسن پھر سلطنت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک بعینی محفوظ تھے یہاں تک کہ مروان نے لے کر چاک کر دیئے۔ بالجملہ اصل قرآن عظیم تو بحکم رب العزت حسب ارشاد حضور پر نور (صلی اللہ علیہ وسلم) ہو یا تھا سب سورہ کا سمجھا کرنا باقی تھا، وہ امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بمشورہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا۔ پھر اسی جمع فرمودہ صدیق کی نقیلیں سے مصاحف بنا کر امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بمشورہ مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ بلا واسطہ میں شائع کیے اور تمام امت کو اصل ابھہ قریش پر جمع ہونے کی ہدایت فرمائی۔ اسی وجہ سے وہ جناب جامع القرآن کہلانے ورنہ حقیقت جامع القرآن رب العزت تعالیٰ شانہ ہے۔

### کما قال تعالیٰ ان علینا جمعہ و ترانہ

اور بنظر ظاہر حضور سید المرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ایک جگہ اجتماع کے لحاظ سے سب میں پہلے جامع القرآن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امام جلال الدین سیوطی اقان شریف میں فرماتے ہیں۔

قد کان القرآن کله کتب فی عهد رسول الله تعالیٰ علیہ وسلم  
لکن غیر مجموع فی موضوع واحد ولا مرتب السور۔

امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔

رواه ، ابو دوثود ، فی المصاحف بسند حسن عبد خیر قال سمعت علیا يقول فذکرہ

صحیح بخاری شریف میں ہے۔

حدثنا موسیٰ ثنا ابن شهاب ان انس بن مالک حدثه ان حذیفة بن الیمان قدم  
علیٰ عثمان و کان یغازی اهل الشام فی فرح ارمینیہ و آز ربع جان مع اهل العراق فافزع  
حذیفة اختلافہم فی القراءة فقال حذیفة لعهن یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامة قبل ان  
يختلفو فی الكتاب اختلاف لیہود والنصاری نارسل عثمان الى حفصہ رضی الله عنہا ان ارسل  
الینا بالصحف ننسخها فی المصاحف ثمہ نردها اليک فارسلت بها حفصہ الی عثمان لا فامر زید  
بن ثابت و عبد الله بن زبیر و سعید بن العاص و عبد الرحمن بن الاحدارث بن هشام و سخواہی  
المصاحت قال عثمان للرهط القریشیین الثالثة اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت فی شيء من  
القرآن فاكتبوه بلسان و انما نزول بلسانهم فافعلوا حتى اذا نسخوا الصحف فی المصاحف  
رد عثمان الصحف الی حفصہ فارسل الی کل افق بمصحف بما نسخوا . الخ :

دیکھو یہ حدیث صحیح بخاری صاف گواہ عدل ہے کہ امیر المؤمنین عثمان غنی نے اختلاف انجہ ولقات سن کر صحیفیاے صدیقی حضرت حضہ سے مٹکوئے اور  
انہیں نقوں سے مخفی بنا کر بلا دا اسلام میں بھیجیے اور وہ صحیفے بعد اپنے حضرت ام المؤمنین کو واپس دے دیجے رضی اللہ عنہم اجمعین - واللہ تعالیٰ اعلم -

مسئلہ ۹۴:

کیا ام المؤمنین صدیق رضی اللہ عنہا کے پاس کوئی خاص قرآن تھا جس سے دیگر صحیفے درست کیے گئے؟

الجواب:

ام المؤمنین صدیق رضی اللہ عنہا کے پاس کوئی خاص قرآن نہ تھا بلکہ وہ صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کا ام المؤمنین حضہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا جس کا  
حال اوپر گزرنا۔ واللہ تعالیٰ اعلم -

مسئلہ ۹۵:

ہندو کے پاس ایک سو دلار تو لر زیر نقیری اور بارہ تو لر ۲ ماشہ دورتی طلاقی ہے اس کو کس قدر چاندی اور کس قدر سونا زکوہ میں ادا کرنا چاہیئے اور کیا نقری و  
طلاقی دونوں زیورات کی زکوہ چاندی سے ہو سکتی ہے اور ایسی صورت میں اسے کس قدر چاندی دینا ہوگی؟

الجواب:

التو لر چاندی میں دونصاب کامل ہیں اور پانچ تو لر عنویں المصاہب اور ۱۲ تو لر ۶ ماشہ سونے کی قیمت ۸ کر ۱۲ کے حساب سے اتو لر ۳ ماشہ ہوئی اس پانچ  
تو لر سے مل کر ۲۲ تو لر ۳ ماشہ جس میں دو ۱/۵ نصاب ہیں اور ایک تو لر عنو مطلق تھا ملکی اور کس قدر سونا زکوہ ۳/۵ ۲/۵ نصاب ہے اور چاندی ہے  
سونے پر ۳ ماشہ ۵/۳ رتی سونا دینا واجب ہوا اور چاندی پر ۳ ماشہ ۵/۲۔ اماشہ چاندی دیا جائے فیہا اور اب اگر سب چاندی دینا چاہیں تو ان سونے کا  
صرف وزن نہ دیکھا جائے گا بلکہ بازار سے اس عدو کی قیمت اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تو لر بھر سونے کا عدد ہے کہ وزن کے اعتبار سے اس کی قیمت ۸  
روپے ہوتی ہے مگر صنایع کے لحاظ سے سورپے ہے جیسے سونے کی گھڑیاں یادی کی سادہ کاری کے چھلے تواب انتیس روپے کا حساب نہ ہوگا بلکہ سو کا  
واللہ تعالیٰ اعلم -

مسئلہ ۹۶:

سونا ۸ ماشہ ایک رتی اور زیادہ ہو گیا تو زکوہ کس قدر را کرنی چاہیئے؟

الجواب:

اب سونا ۳ تو لر ۲ ماشہ ۳ رتی ہوا۔ اس میں بھی وہی ایک نصاب ۳ مس ہیں کہ اب زیادت ایک تو لر ۲ ماشہ ۳ رتی تھہری، یہ بھی خس نہیں، لہذا اس ۸ ماشہ  
ایک رتی کو بھی چاندی کیا جائے گا نہ مذکور سے اس کی قیمت میں روپے تین آنے دس پائی ہوئی جس کے چودہ کے حساب سے اتو لر ایک ماشہ

۷۔۲۔۳۔ رتی جس میں چار ٹس نصاب اضافہ ہوئے تو زکوٰۃ میں ۱۰/۵۔۳۔۶ مانے چاندی اور دینی آئی یعنی ۱۳ مانے ۲/۵۔۲ سو نادیں اور تین تو ل آٹھ ماشے اور ایک ماشہ کا دوسرا حصہ چاندی دیں اور اگر سونے چاندی کا نزخ اب بدل گیا ہو تو حساب میں بھی تبدیلی آجائے گی۔ اس کا لحاظ ہوتا چاہیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۹۷

۱۰۔ تو لے چاندی اور ۱۳ تو لے ۲ مانے پر زکوٰۃ ادا کرنے کے واسطے مندرجہ ذیل حساب سے ۳ تو لے ۲۰/۱۹۔۳ مانے چاندی اور تین ماشے ۲/۵۔۲ رتی سونا خریدا ہے پس اس قدر چاندی اور سونادینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں۔

۱۱۔ تو لے چاندی میں دونصاب کامل اور ہاتھے عغوفی الصاب اور ۱۳ تو لے ۲ مانے کی قیمت ۵ ہوئی کہ ۲ کے حساب سے ۳ تو لے ۱۵ مانے چاندی ہوئی اس ۵ تو لے سے مل کر ۳۲ تو لے ۵ مانے چاندی ہوئی جس میں تین ٹس نصاب ہیں اور ۲ تو لے ۱۹ مانے عغوفی الصاب الہذا سونا ۵/۳۔ نصاب ہے اور چاندی ۵/۳۔ ۲ نصاب سونے پر ۱۳ مانے ۲/۵۔۲ رتی سونادینا واجب ہوتا ہے اور چاندی پر تین ۲۰/۱۹۔۳ مانے چاندی دینی واجب ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی تحریر فرمائیے کہ ۲ کی چاندی ایک روپے بھر یعنی ۱۱ ماشے ملتی ہے تو کیا ۳ تو لے کی جگہ تین روپے بھر چاندی کفایت کر سکتی ہے۔ بنیوا تو جروا!

الجواب:

واجب کا حساب صحیح لگایا اگرچہ مقدار عغوفی میں قدرے فرق ہو گیا جس کا واجب پر کچھ فرق نہیں ایک تو لے ۲ مانے تین رتی سونے چاندی مذکور زخوں کے حساب سے ۳۱ تو لے ۹/۵۔ ۷ سرخ عغوف مطلق رہے۔ دو ماشے کے قریب عغوف زیادہ ہے اسے عغوف مطلق کہتے ہیں کہ اب اس پر کوئی واجب نہیں اور جو نصاب ڈس نصاب سے زیادہ اپنی جنس میں بچے کر دوسری جنس سے مل کر نصاب یا ٹس ہو سکے گا۔ وہ عغوفی الصاب کہلاتا ہے، بہر حال حساب صحیح اور کمال صحیح ہے مگر ایک امر ضروری للحاظ ہے کہ ادائے زکوٰۃ کے لئے یہ سونا چاندی جو خریدا ہے اگر نہیں روپے اشرافوں کے عوض خریدا ہے جو اس مال زکوٰۃ میں شامل تھا یا قرض خریدا یا جس سال کی زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ سال زکوٰۃ پورا ہونے کے بعد خریدا جب تو یہ سونا چاندی اس سال کے مال زکوٰۃ میں شامل نہ ہوگا اور جو حساب آپ نے کیا صحیح رہے گا اور اگر ہنوز وہ سال زکوٰۃ ختم نہ ہو اتحاکہ سونا چاندی کسی مال غیر زکوٰۃ کے بدے خریدا تو خود اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو گی تین تو لے چاندی کی جگہ تین روپے نہیں ہو سکتے، نہ روپے بھر چاندی کفایت کرے بلکہ ۱۸ رتی چاندی اور درکار ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۹۸

مسجد کا پور کے واسطے بعض اشخاص نے چندہ فرماہم کیا مگر روانہ نہیں کیا۔ اب کیا کرنا چاہیے آیا دوسرے کا رخیر میں مثلاً مسجد یا مدرسہ وغیرہ میں صرف کر سکتے ہیں یا نہیں؟

الجواب:

جن جن سے یہ چندہ لیا ان کی رائے سے دوسرے امر خیر میں صرف ہو سکتا ہے۔ بلا اجازت نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۹۹

تقبیہ میں کیا کیا برائیاں ہیں؟

الجواب:

تقبیہ کی برائیاں کی محتاج بیان ہیں۔ تقبیہ رواش اور نفاق ایک چیز ہے۔ اللہ عز وجل فرماتا ہے۔

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أَمْنَوْا قَالُوا إِنَّا مُنَاهَنُ شَيَاطِينَهُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ  
جب مسلمان ہیں تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔  
ہم تو (مسلمانوں سے) خلٹھا کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔

من كان له وجهان في الحياة كان له لسانان من نار يوم القيمة رواه البخاري و

مسلم باسنادهما عن عمر بن ياسر رضي الله عنه

جو دنیا میں دور خا ہو گا قیامت کے دن آتش دوزخ کی دوزبانیں اس کے منہ میں رکھی جائیں گیں حدیث شریف میں ہے

تجدون من عباد الله شرائع القيمة ذو الوجهين الذي ياتى هولا بحدث آخر عكس الاول

## ا) هجری مزید امن شرح الطريقة المحمدية

ذوالوجهين جویہاں ان کی سی کہے اور وہاں ان کی سی وہ قیامت کے دن ان میں ہوگا جو تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم و ابن الدینیا باسنادهم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۰۰:

دفع بلاکے واسطے جو جانور ذبح کیا جائے۔ اس کی کھال زیر زمین دفن کرنا کیسا ہے؟

الجواب:

کھال دفن کرنا محض ناجائز ہے۔ دفع بلاکے لئے شرع مطہرہ نے صدقہ مقرر فرمایا ہے کھال بھی مسکین کو دیں یا کسی مدرسہ اہلسنت میں پہنچا دیں زمین میں دفن کر دینا قصیح مال حرام ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۰۱:

نجر کی نماز کا مستحب وقت کونسا ہے اور جس جگہ افق صاف نظر آتا ہو وہاں طلوع و غروب کی کیا پیچان ہے؟

الجواب:

نجر کا مستحب وقت اس کے وقت کا نصف آخر ہے مثلاً اگر آج ایک گھنٹہ ۲۰ منٹ کی صبح ہو اس وقت کے طلوع شش میں چالیس منٹ باقی رہیں اور افضل یہ ہے کہ ایسے وقت چالیس یا سانچھا آنٹوں سے پڑھی جائے کہ اگر فساد نماز ثابت ہو تو پھر طلوع سے پہلے یونہی اعاء اس کا لاحاظہ رکھ کر جتنی بھی تاخیر کی جائے افضل ہے جب افق صاف نظر آتا ہے اور نیچے میں کوئی درخت وغیرہ حائل نہیں تو طلوع یہ ہے کہ آفتاب کی پہلی کرن چمکے اور غروب یہ کہ پچھلی کرن نگاہ سے عابر ہو جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۰۲:

ظہر کا وقت کتنے بجے ہوتا ہے اور ضلع میرٹھ میں کتنے بجے سے کتنے بجے تک رہتا ہے اور جماعت کتنے بجے ہونا چاہیے۔ موسم گرما اور موسم سرما کب سے کب تک مانے جاتے ہیں اور ان میں ظہر کے مستحب اوقات کیا ہیں؟

الجواب:

ظہر کا اول وقت نصف النہار سے ڈھلتے ہی شروع ہوتا ہے اور گھنٹوں کے اختبار سے باختلاف بلا و مخالف ہوگا۔ یہاں تک کہ بعض ہندوستان میں بعض ایام میں ریلوے گھری سے ساڑھے بجے بھی وقت ظہر شروع نہ ہوگا اور بعض میں بعض ایام میں ساڑھے گیارہ بجے سے پہلے ظہر کا وقت ہو جائے گا، یہ تقدیل ایام واخلاف طول معلوم ہونے پر متوقف ہے جماعت گرمی کے وقت ظہر کے نصف آخر میں ہو اور جاڑوں میں نصف اول میں میرٹھ میں کبھی پانچ بجے سے بعد تک وقت ظہر باقی رہتا ہے اور کبھی پونے چار بجے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں بیانات کا اختلاف ہے اصل تقیم اہل بیت نے یوں لکھی ہے کہ راس الحمل سے ختم جوز ایک بھار اور راس السرطان سے ختم تک سرما مگر یہاں کی فضلوں سے مطابق نہیں آتی۔ علامہ صاحب بحر نے ربع کو گرمائے ملحق کیا ہے اور یہی قرین قیاس ہے۔ آخر تبر سے مارچ تک سرما سمجھنا چاہیے باقی گرم۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۰۳:

عصر کا وقت مستحب کونسا ہے جماعت کتنے بجے ہونا چاہیے؟

الجواب:

عصر کا وقت مستحب ہمہ اس کے وقت کا نصف آخر ہے گروہ ابرا تحلیل کی جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۰۴:

مغرب کی اذان اور جماعت کب ہونا چاہیے اور مغرب کا وقت کتنی دریتک رہتا ہے؟

الجواب:

مغرب کا جس وقت یقین ہو جائے۔ اصل اور اذان و افطار میں نہ کی جائے۔ اس کی اذان و جماعت میں فاصلہ نہیں۔ مغرب کا وقت میرٹھ میں کم از کم ایک گھنٹہ ۱۹ منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ ۳۲ منٹ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۰۵:

بکیر سے پہلے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور کچھ لوگ کھڑے ہوں تو کیا بکیر شروع ہوتے ہی سب کو کھڑا ہونا چاہیے یا بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر بیٹھے رہیں تو کس

لقط پر کھڑا ہوتا چاہیے اگر تکمیر شروع ہوتے ہی فوراً کھڑے ہو جائیں تو کچھ حرج نہیں؟

الجواب:

تکمیر کھڑے ہو کر سنتا مکروہ ہے یہاں تک کہ ایضاً میں فرمایا ہے کہ اگر تکمیر ہو رہی ہو اور مسجد میں آیا تو پہنچ جائے اور جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچاں وقت سب کھڑے ہو جائیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۰۶:

چار رکعت والی نماز میں امام دور رکعت کے بعد لے بیٹھا اور التحیات کے بعد درود شریف شروع کر دیا۔ مقتدی کو معلوم ہو گیا۔ ایسی حالت میں مقتدی امام کو اشارہ کر سکتا ہے یا نہیں اگر کر سکتا ہے تو کس طرح سے؟

الجواب:

اس کا معلوم ہونا دشوار ہے کہ امام آہستہ پڑھے گاہاں اگر یہ اتنا قریب ہے کہ یہ آواز اس نے سنی کہ التحیات کے بعد اس نے درود شروع کیا تو جب تک امام اللهم صل سے آگئے نہیں بڑھا ہے۔ یہ سبحان اللہ کہہ کے بتا دیا اور اگر اللهم صل علی سیدنا یا اللهم صلی علی محمد کہہ لیا تو اب بتانا جائز نہیں بلکہ انتظار کرے اگر امام کو خود یاد آئے اور کھڑا ہو جائے فبھا اور اگر سلام پھیرنے لگے تو اس وقت بتائے۔ اس سے پہلے بتائے گا تو بتانے والے کی نماز جاتی رہے گی اور اس کے بتانے کو امام لے گا تو اس کی اور سب کی جائے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۰۷:

کیا فرماتے ہیں علماء دین و شروع متنین اس مسئلہ میں کہ زید نے بکر سے دس روپے بطور قرض مانگے بکرنے زید کو بجائے روپے کے دس روپے کا انوٹ دے دیا اس پر اس نے یہ بھی دیا اور پھر زید نے روپیہ بکر کو واپس دیا تو وہ پیسے جو بھی میں لگے ہیں سو دہوایا نہیں؟

الجواب:

بھی سے بینے کو دیا ہے وہ قرض دینے والے کے لئے سو دہیں ہو سکتا۔ زید بکر کو دس روپے دے یاد کا انوٹ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۰۸:

امام نے پہلی یا دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ حمل شریف کہ اس کی پہلی آیت بہت چھوٹی ہے اور پہلی پڑھی تھی کہ حدث واقع ہوا اور جس شخص کو امام نے خلیفہ بنایا۔ اس کو حمل یا نہیں تو خلیفہ کو اب کس جگہ سے شروع کرنا چاہیے یا تیری یا چوتھی رکعت میں امام کو حدث واقع ہوا تو وہ خلیفہ کو کس طرح کہے کہ فلاں جگہ سے شروع کرو جب کہ حدث قیام یا تشهد کی حالت میں واقع ہوا اگر امام بالخبر پڑھ رہا تھا تو خلیفہ کو خود ہی معلوم ہو جائے گا اگر آہستہ پڑھ رہا تھا تو کس طرح اشارہ کرے یا بتائے؟

الجواب:

اختلاف کے مسائل ۱۳ شرطیں چاہتے ہیں عوام پر ان کی رعایت دشوار ہے اور پھر بھی افضل یہی ہے کہ نئے سرے سے پڑھے تو افضل کو چھوڑ کر دشواری میں کیوں پڑے اور اگر ایسا ہی ہو تو جس سورۃ حمل یا نہیں وہ اس کے بعد کسی سورۃ کی کچھ آیتیں پڑھ دے اور قیام و تشهد میں حال معلوم نہ ہو تو شروع فاتحہ والتحیات سے پڑھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۰۹:

اگر امام کوئ کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہ کر اللهم ربنا لک الحمد بھی با آواز بلند کہتا ہے تو اس واسطے کہا ہے درست ہے یا نہیں اگر امام ربنا لک الحمد کہے بلکہ ایک شخص جو علیحدہ نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کیا حکم ہے یعنی تو جروا؟

الجواب:

امام کو فقط سمع اللہ لمن حمدہ کہنا چاہیے اس کا ربنا لک الحمد کہنا اور وہ آواز سے سراسر خلاف سنت ہے اور امام کے سمع اللہ حمدہ کہنے پر ایک شخص نے کہ علیحدہ نماز پڑھتا ہے بطور جواب ربنا لک الحمد کہا تو اس کی نماز جاتی رہے گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۱۰:

مسجد کے دروں میں اگر مقدی بلا ضرورت کھڑے ہوئے تو کیا ان ہی مقتدیوں کی نماز مکروہ ہو گی یا اور مقتدیوں کی بھی۔ یعنی تو جروا؟

الجواب:

صرف انہیں مقتدیوں پر کراہت عائد ہو گی جو بلا ضرورت دروں میں کھڑے ہوئے نہ اور مقتدیوں پر۔ ہاں امام کو چاہیئے کہ ان لوگوں کو اس سے منع

کرے درجتار میں ہے

وینبغی ان یا مرهم بان تیر صوا ولیس د والخلل الخ والله تعالیٰ اعلم  
وعلمه جل مجده اتم واحکم -

مسئلہ ۱۱۱:

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ امام مصلیٰ پر کھڑا ہوا اور مقتدی بغیر مصلیٰ یعنی فقط صحن میں کھڑا ہوا اس صورت میں نماز مکروہ ہے یا نہیں۔ بنو تو  
جروا؟

الجواب:

نماز میں کچھ کراہت نہیں کہ حدیث و فقہ میں کہیں اس کی ممانعت نہیں نہ امام کی تظمیم شرعاً منوع ہے نہ یہ انفراد علی الدکان کی قبیل سے ہے بحر الرائق میں  
ہے۔

### الکراہة لا يدل لها من دليل خاص منح الفرار

میں ہے۔ بمشیل ہذا کا ثبوت الکراہتۃ اذ لا يدل لها من دليل خاص۔ البیت امام براہة مکبر و استعلا ایسا اعیاز چاہے تو اس کی نیت سخت گناہ و حرام  
کبیرو ہے۔ قال اللہ تعالیٰ۔

الیس فی جنہم مثری للمتکبیرین اعادتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بمنہ و کمال کرمہ آمین -  
واللہ تعالیٰ اعلم -

مسئلہ ۱۱۲:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں؟  
(۱) ایک شخص نے چالیس یا پچاس ہزار کے مکانات اپنی حاجت سے زیادہ صرف کرایہ کی غرض سے خرید کئے آیا اس صورت میں حاجت سے زیادہ مکانات  
میں ان کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا جو کرایہ آتا ہے اس کے اوپر۔  
(۲) جو مکانات کی زینت کے لئے تابے پہنچیں چینی وغیرہ کے برتن خرید کر کے مکان سجاتا ہے اور کبھی وہ برتن استعمال میں بھی آتے ہیں اس صورت  
میں کیا حکم ہے؟

الجواب:

مکانات پر زکوٰۃ نہیں اگرچہ پچاس کروڑ کے ہوں کرایہ سے جو سال تمام پر پس انداز ہوگا۔ اس پر زکوٰۃ آئے گی اگر خود یا اور سے مل کر قدر نصاب ہو۔  
(۲) برتن وغیرہ اسیا بداری میں زکوٰۃ نہیں اگرچہ لاکھوں کے ہوں زکوٰۃ صرف تمیں چیزوں پر ہے سونا چاندی کیسے ہی ہوں پہنچنے کے ہوں یا برتنے  
کے یار کھنے کے ہو یا پتہ یا ورق دوسرے چہ اپنے پر چھوڑے جانور تیرے تجارت کامال باقی کی چیز پر زکوٰۃ نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں اس مسئلہ میں کہ ایک شخص علامہ نیپال کے جنگل میں مجاہب تا جران لٹھا ملازم ہے اور ایسی جگہ رہتا ہے جہاں سے ایک دو میل یا کم زیادہ کے فاصلے پر آبادی ہے اور زراعت ہوتی ہے یہ عمداری گورنمنٹ کے جنگلات میں ملازم ہے جو بصورت متنزہ کردہ بالا ہے یا اشیش ریلوے جنگل میں ہے وہاں سے بھی دو یا تین میل کے فاصلے پر آبادی و زراعت ہے اور آقاجب بھیجتا ہے تو کچھ مدت مقرر نہیں کرتا تو ان صورتوں میں ملازم کو نماز قصر ادا کرنا واجب ہے کیونکہ اول عمداری ہندوکی ہے لیکن نیپال۔ دوسرا جگہ اقامت پر نہ آبادی ہے نہ زراعت ہوتی ہے لیکن کچھ فاصلہ پر ہے تیرے یہ صورت اول میں جو خود مختار نہیں ہے۔ آقاجب چاہے۔ منتقل یا عیحدہ کر سکتا ہے اور عمداری گورنمنٹ انگریزی میں اگرچہ اشیش ہے مگر زراعت نہیں ہوتی۔ تو کر پر بوجہ مذکورہ خود مختار پر بوجہ نہ ہونے زراعت قصر ادا جب ہے اقامت کی شرط میں زراعت بھی ہے۔ عمر و کی دلیل یہ ہے کہ صورت مذکورہ بالا میں مقام اقامت سے ایک میل یا کم زیادہ پر زراعت ہوتی ہے مگر فراتہی غلہ وغیرہ میں کوئی وقت پیش نہیں آتی دوسرا مقام اقامت کا جنگل ہے مگر وہ میں پچاس آدمی ہمراہ ہوتے ہیں جا نور درندہ وغیرہ کا خوف بالکل نہیں ہوتا ہے۔ تیرے یہ کہ کوئی آقاما ملزم کو جب بھیجتا ہے تو کام ختم کر کے آنے تک کے لیے بھیجتا ہے درمیان میں اگر ضرورت ہوئی تو وہاں سے منتقل یا عیحدہ کر دیا یہ معین نہیں۔ اس صورت میں ارادہ ملازم کا معتبر ہے اگر پندرہ یوم کا ارادہ ہے تو پوری ادا کرے ورنہ قصر اور علی بذریعہ میں خود مختار بھی ارادہ پر ادا کرے لہذا ایسی حالت میں زید قصر ادا کرے یا عمر و پوری ادا کرے تو دونوں کی اقتدار اور است ہے یا نہیں جواب مل شانی عطا فرمادیا جائے۔ بنیوا تو جروا؟

**الجواب:**

جو مسافر نہ تھا اور اس جنگل تک جانے میں بھی اسے سفر کرنا پڑا کہ فاصلہ تین منزل سے کم تھا۔ وہ تو ظاہر ہے کہ مقیم تھا اور مقیم ہی رہا سے قصر حرام ہے اور پوری پڑھنا فرض ہے اگرچہ جگہ ترا میں ہو۔ بحر الرائق و رد المحتار میں ہے۔

**هذا ان سار ثلاثه ايام والافق و لو المفازة**

اور جو مسافر تھا وہاں تک جانے سے مسافر ہوا کہ فاصلہ تین منزل یا زائد کا تھا وہ ضرور مسافر ہے اگر عادۃ معلوم ہے کہ جس کام کے لئے بھیجا گیا وہ پندرہ دن سے زائد میں ہو گا اور جگہ ایسی ہو جہاں اقامت ممکن ہے اگرچہ آبادی وہاں سے دو تین میل فاصلہ پر ہو وہاں پہنچ کر مقیم ہو جائے گا اور پوری پڑھنی لازم ہو گی۔ خاص وہاں سے زراعت ہونا کچھ ضروری نہیں نہ ہندوکی عمداری ہونا کچھ مانع کریں آمد و رفت امان کے ساتھ ہے اس میں تعریض نہیں کیا جاتا در مختار میں ہے،

**من دخلها بامان فانه يتم**

اور احتمال کر شاید کوئی ضرورت پیش آئے اور جس کا نوکر ہے وہ دوسرا جگہ بھیجے معتبر نہیں ایسا احتمال ہر شخص کو ہر حال میں ہے اور جب تو کر کا یہ حکم ہے تو خود بد رجاء ولی جبکہ پندرہ دن یا زائد کی نیت کی ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ ۲:**

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کب وصال ہوا۔ بنیوا تو جروا؟

**الجواب:**

جس وقت آپ کی عشر شریف ۶۶ سال تھی۔ ۵۸ھ اتاریخ رمضان المبارک شب سہ شنبہ کو وصال ہوا۔ یقین میں فتن فرمائی گئیں۔ آپ کا جنازہ میں اکثر اہل مدینہ حاضر تھے اور آپ کی قبر میں آپ کے بھنگوں حضرت قاسم بن محمد اور عبد اللہ بن عبد الرحمن اور عبد اللہ بن عثیم اور آپ کے بھانجوں عروہ بن زبیر اور عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم نے اتارا اور آپ کی نماز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ زر قانی شریف میں ہے۔

رمضان سنہ ثمان وخمسین) وعلم اقصر المصنف فی الشرح وصدرہ فی الفتح کالا صابة  
وعزاء فیها الاکثرين وتبعد الشامی وزادته الصحیح روہی ابنة مت وستین سنہ واوصلت ابن  
اختھا عروة (ان تدفن بالقیع) قدفت به (لیلا) وتزل فی قبرھا القاسم بن محمد وابن عمه عبد  
الله بن عبد الرحمن وعبد الله بن ابی عتیق وعروة عبد الله ابن الزبیر کما فی العيون وحضر  
جناز تھا اکثر اهل مدینہ وصلی علیہا ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ تعالیٰ اعلم ،

**مسئلہ ۳:**

یہاں پر جامع مسجد میں جمع کے روز ایک صفائح کی کھڑی ہے کہ اس صفائح میں مقتدی امام سے تھوڑے ہی پیچھے ہوتے ہیں ان کا سجدہ امام کے پیچھے  
نہیں ہوتا بلکہ امام کی سجدہ گاہ سے ان مقتدیوں کی سجدہ گاہ تھوڑے ہی پیچھے ہوتی ہے، زید کہتا ہے اگر ایسی صفائح کھڑی کی جائے گی تو امام سے اس قدر پیچھے  
ہونا چاہیے کہ ان کا سجدہ امام کے پیچھے ہو عمرہ کہتا ہے یہ مسئلہ غلط ہے ہمارے یہاں جیسے بزرگوں سے روانج ہے ویسا کریں گے وہ جاں لئے تھے چونکہ  
انہوں نے ایسی صفائح کھڑے ہونے پر اعتراض نہ کیا تو ہم کو بھی ویسا ہی کرنا چاہیے یہ مسئلہ علماء نے اپنی طرف سے نکال لیا ہے ان میں کس کا قول صحیح ہے  
اگر زید کا تو کیا ضرورت کے وقت ایسی صفائح کھڑی کر سکتے ہیں مثلاً مسجد بھرگئی۔ دوسرا ذمی آگئے ان میں سے ایک ایک سو ستر یا ایک سو اسی مقتدیوں کے  
واسطے مسجد سے باہر مسجد کی پڑی ہوئی اراضی میں انتظام کیا گیا اور بیس آدمیوں کو امام کے برابر کھڑا کر دیا گیا تو کیا یہ فعل جائز ہوگا۔  
یہاں مسجد کے دروں میں صرف ۹ آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں مسجد بالکل بھرگئی دوسو کے قریب آدمی اور آئے ان کے واسطے مسجد کی پڑی ہوئی اراضی میں  
انتظام کیا گیا تو کیا ایسی حالت میں ان دو سو آدمیوں میں سے ۹ آدمیوں کو دروں میں کھڑے ہونے کی اجازت دی جائے گی جبکہ باہر ان کے واسطے جگہ  
موجود ہے۔ مبنی تواجر و ا۔

**الجواب:**

صورت مستفسرہ میں امام اور سب مقتدیوں کی نماز مکروہ تحریکی واجب الاعدہ ہے۔ شرعاً ایک مقتدی کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا سنت ہے جب دوسرا شخص  
آجائے تو اس پہلے شخص کو چاہیے کہ پیچھے بہت آئے اگر نہ ہٹایا بوجہ جگہ نہ ہونے کے نہ ہٹ سکا تو امام کو چاہیے کہ بڑھ جائے اور اگر وہ بھی نہ بڑھا اور  
دوسرے بھی امام کے پہلو میں کھڑا ہو گیا تو یہ اولی ہے اور اگر تیسرا شخص اور آگیا توب اس کو بھی ویسے کھڑا ہو جانا مکروہ تحریکی ہے کہ تین مقتدیوں ہر امام کا  
تقدم واجب نہ ہونا مکروہ تحریکی ہے۔ درجتاً مارٹیں ہے۔

**والزید يقف خلفه فلو اتوسط النین كره تنزيها و تحريمها لواكش**

روالخوارمیں ہے

**افادان تقدم الامام امام الصف واجب كما انا ده في الهدایة والفتح۔**

اگر نمازی زائد آجائیں اور مسجد پر ہو جائے اور امام کے برابر صفائح نہ کی جائے تو بعض کے لئے جگہ کہیں نہ ہو گی تو ضرورت ایسی صفائح قائم کرنے کی  
اجازت ہو گی اسی طرح ضرورت دروں میں بھی کھڑے ہونے کی اجازت ہے جبکہ درخالی رکھنے کی حالت میں بعض کو جگہ اصلاحانہ مل سکے یا باہر ہو یا  
خت و هوپ ناقابل برداشت ہے۔  
خرائت المفتکیں میں ہے۔

**لولم يتقدم الا انه قام عن ميمنته الصف او ميسرتہ او وسطه فانه يجوز ويكره**

(غیرۃ میں ہے)

**وذکر شمس الائمه الحلوائی ان الصلاة على الرفون في الجامع من غير ضرورة مکروہ و عند  
الضرورة بان اصلاح المسجد لا ياس به هكذا يحكى عن الفقيه ابی اليث في طاق انه اذا اضاف  
المسجد عن القوم لا يكره انفراد لامام في الطاق هكذا ذكر في الكفاية**

ولو کان موضع سجودہ ارفع من موضع القدمین بمقدار النبین منصوبین جاز سجود و ان اکثر  
لا لا لز حمة کمام رام فی السجود علی الظہر فانہ دفع من نصف زراع او مرید امن رد المختار  
اقول فاذا اجاز لرحمته مالا يحرزی السجود علی ارفع من البنتین منصوبین فلا يجوز  
لرحمه ما هو مکروه ای القیام وسط الصف کما مرعن الخزانة اولی - واللہ تعالیٰ اعلم -

مسئلہ ۴:

نبوی کریم افضل الصلوٰۃ والسلیم کو فخر جہاں کہنا کیسا ہے۔ بنوا تو جروا؟

الجواب:

فخر عالم یا فخر جہاں کہنا بے معنی ہے۔ شاہ جہاں کہہ سکتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم -

مسئلہ ۵:

اس شعر میں شرعاً کیا خرابی ہے؟

مصطفیٰ کی ناخداٰی سے رہائی مل گئی  
ورسہ بیڑا نوح کا مجدهار میں غرق آب تھا

الجواب:

(نصر عاولیٰ) اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ناخداٰی بلا حقی اس سے چھوٹ گئے۔ (نصر عاولیٰ) یہ زیادتی ہے کہ پرانی عذاب کا تھا اور ابھی عذاب سے  
منزہ ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم -

مسئلہ ۶:

مجھے اپنا مکھڑا دکھا شاہ جیلاں میں مکھڑا کا استعمال ٹھیک ہے یا نہیں۔ بنوا تو جروا؟

الجواب:

یہ لفظ تغیر کا ہے اکابر کی مدح میں منع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم -

مسئلہ ۷:

جن کی ہر چیز کی مولیٰ نے قسم کھائی ہو۔ میں مولیٰ کی طرف کھانے کی نسبت صحیح ہے یا نہیں۔ بنوا تو جروا؟

الجواب:

اللہ عز وجل کی طرف کھانے کی نسبت صحیح نہیں۔ مولیٰ کی جگہ قرآن بنادیا گیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم -

مسئلہ ۸:

جننا بھنا غم دوری میں کام رہا اپنا کون ساروز ہے جس میں گل آئی ہے یہ شعر کیسا ہے۔ بنوا تو جروا؟

الجواب:

ایسے مضمون جو خلاف واقع ہوں عرض کرنا جائز نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم -

مسئلہ ۹:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ان مسائل میں کہ (۱) غسل کی نیت کرنی چاہیے یا نہیں اور اس کی کیانیت ہے غسل جنابت یا احتلام کا ہوا گرنیت نہ کی غسل  
ہوا یا نہیں بنوا تو جروا؟

الجواب:

غسل میں نیت سنت ہے اگر نہ کی غسل جب بھی ہو جائے گا اور اس کی نیت یہ ہے کہ ناپاکی دور ہونے اور نماز جائز ہونے کی نیت کرتا ہوں۔

اگر زید غسل خانہ میں غسل جنابت یا احتلام کا کرتا ہے اور وضو کر کے تہبند نکال کر غسل کرے تو غسل اترتا ہے یا نہیں۔ غسل خانہ اور پر سے بند ہو یا کھلا دنوں صورتوں میں کیا حکم ہے؟ بنیو تو جروا۔

## الجواب:

سارے بدن پر پانی پینے سے غسل اترتا ہے جس میں طلق تک مند اور ہڈی کے کناروں تک اندر سے ناک کا بانسا بھی داخل ہے اس کے بعد جیسے بھی ہو غسل اتر جائے گا۔ ہاں کھلے غسل خانہ میں بخا ہونا بہتر ہے اور اگر وہاں قریب کھلے مکان ہوں جس سے احتلام ہو کہ کسی کی نظر پڑے گی تو وہاں تہبند رکھنے کی تاکید وہ احتمال نظر جتنا قوی ہو گا۔ اتنی دری یو صحی جائے گی یہاں تک کہ اگر نظر پڑنے کا مکان غالب ہو گا تو تہبند رکھنا واجب ہو گا اور وہاں برہنہ نہاٹا گناہ ہو گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## مسئلہ ۱۱:

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک کنوں ہے جس میں پانی اس قدر ہے کہ حوض دہ دردہ اس کے پانی سے ذریعہ چ سے بھردیا جاتا ہے۔ پانی اس کا نہیں ٹوٹا اس کنوں میں مگر ہری گر کر مر گئی اور سڑ کر پھٹ گئی۔ ایسی حالت میں کس قدر پانی نکالا جائے کہ کنوں پاک ہو جائے؟ بنیو تو جروا۔

## الجواب:

اگر کنوں آب دہ دروں ہو یعنی اس کا قطرہ پانچ گز دیگرہ ایک انگل ہو جب تو ناپاک نہ ہو گا اور اس سے کم ہے تو ذرا سی نجاست سے اس کا گل پانی ناپاک ہو جائے گا اگر کثرت عقیل یا زیادت آمد آب کے سبب اس سے دس حوض دہ دردہ پھر سکیں۔ اس صورت میں اس میں جتنے ڈول پانی ہوں وہ ناپاک کرنکال دیا جائے پاک ہو جائے گا خواہ دفلٹ نکالیں یا کئی روز میں اور خود نکالنے سے اس کا پانی ٹوٹ جائے یا اصلاح کھٹے ہر صورت میں اتنے ڈول نکالنے سے پاک ہو جائے گا اور وہ آج کل بعض بے علم لوگ ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۳۰ ڈول نکالنا کافی بتاتے ہیں۔ غلط ہے۔ ناپنے کا صاف طریقہ یہ ہے کہ دسی میں پچھر باندھ کر آہستہ آہستہ چھوڑیں خم نہ پڑے جبکہ تہہ کو پانچ جائے نکال کرنا پس کرتے ہاتھ پانی ہے پھر جلد جلد سو ڈول پانی کھٹک کرایے ہی ناپنے جتنا پانی گھٹا اس سے حساب لگا لیں مثلاً ۲۰ ہاتھ ناپ میں آیا اور سو ڈول نکالنے سے ایک ہاتھ گھٹا تو ۹۰۰ ڈول اور نکالیں یا دو معتبر شخص کہ پانی میں نگاہ رکھتے ہوں اندازہ کر کے تباہیں کاس میں اتنے ڈول پانی ہے ہزار دو ہزار جتنے تباہیں نکال دیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## مسئلہ ۱۲:

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ عورت لڑکا جنی اور نفاس سے آٹھ دن میں فارغ ہو گئی اب اس کے واسطے روزے نماز کا کیا حکم ہے اور چوڑی وغیرہ چاندی یا کامیکی یا وہ چار پائی یا مکان پاک رہیا ناپاک یا چالیس دن کی میعاد لگائی جائے گی؟

## الجواب:

یہ جو عوام جاہلوں عورتوں میں مشہور ہے کہ جب تک چلنہ ہو جائے زچ پاک نہیں ہوتی۔ محض غلط ہے خون بند ہونے کے بعد ناچن ناپاک رہ کر نماز روزے چھوڑ کرخت کیرہ گناہوں میں گرفتار ہوتی ہیں۔ مردوں پر فرض ہے کہ انہیں اس سے باز رکھیں۔ نفاس کی زیادہ حد کے لئے چالیس دن سے کم کا ہوتا ہی نہیں ہواں کم کے لئے کوئی حد نہیں اگرچہ پچھے جنے کے بعد صرف ایک مٹ خون آیا اور بند ہو گیا عورت اسی وقت پاک ہو گئی۔ نہائے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے اگرچا لیس دن کے اندر اسے خون عودنہ کرے گا تو نماز روزے سب صحیح رہیں گے۔ چوڑیاں چار پائی، مکان سب پاک ہے۔ فقط وہی چیز ناپاک ہو گی جسے خون لگ جائے گا بغیر اس کے ان چیزوں کو ناپاک سمجھ لینا ہندوؤں کا مسئلہ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## مسئلہ ۱۳:

کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اگر کسی اردو کتاب یا اخبار میں چند آیات قرآن بھی شامل ہوں تو اس کو بلا وضو چھوٹا یا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

## الجواب:

کتاب یا اخبار میں جس جگہ آیت لکھی ہے خاص اسی جگہ کو بلا وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ اسی طرف سے ہاتھ لگانا جائز نہیں اسی طرف سے ہاتھ لگایا جائے جس طرف آیت لکھی ہے خواہ اس کی پشت پر دنوں نا جائز ہیں باقی ورق کے چھوٹے میں حرج نہیں پڑھنا ہے وضو جائز ہے نہائے کی حاجت ہو تو حرام ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## مسئلہ ۱۴:

عمرو پر غسل جنابت یا احتلام ہے اور زید سامنے ملا اور سلام کہا تو اسے جواب دے یا نہیں اور اگر اپنے دل میں کوئی کلام الہی یا درود شریف پڑھے جائز ہے یا نا جائز؟

الجواب: دل میں بایس معنی کہ زے تصور میں بے حرکت زبان تو یوں قرآن مجید بھی پڑھ سکتا ہے اور زبان سے قرآن مجید بحال جذابت جائز نہیں اگر چہ آہستہ آہستہ ہو اور ورو و شریف پڑھ سکتا ہے مگر کل کے بعد چاہیے اور جواب سلام دے سکتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ بعد تم ہو۔ کما فعلہ رسول اللہ (علیہ السلام) - تحریر میں ہے

### (ایکرہ التطیر الیہ (ای القرآن) لجنب و خائنض و نفسماء کا دعیہ

روالخمار میں ہے

### نص فی الهدایة علی استحباب الوضوء لذکر

الله تعالیٰ اس میں بھر سے ہے

وترك المستحب لا يوجب الكراهة . والله تعالى اعلم.

مسئلہ ۱۵:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ حالت جذابت میں اگر پیش آئے اور کپڑے تر ہو جائیں تو نجس ہو جائیں گے یا نہیں؟

الجواب:

نجیں کہ جب کاپینہ مٹل اس کے لحاب وہن کے پاک ہے۔

فی الدار المختار سورا الاادھی مطلقاً ولو جنباً او كافر الطاهر  
و هكم العرق كسوراً ملخصاً . والله تعالى اعلم.

مسئلہ ۱۶:

کیا فرماتے ہیں۔ علمائے دین و مفتیان شرح متین کہ نماز کے اندر چادر یا رضاۓ سر سے اوڑھ کر کھڑا ہونا چاہیے یا سر سے رضاۓ یا چادر کا اوڑھنا عورتوں سے مشابہت ہے اور کتاب سرمایا آخرت میں بے چاغ ہدایت میں رضاۓ یا چادر کو سر سے اوڑھنا نماز کے اندر مکروہ لکھا ہے۔ جواب میں اگر کسی کتاب کا حوالہ دیا جائے گا اور اس مقام کے متعلق عبارت نقل کر دی جائے گی تو نہایت مناسب ہو گا۔

الجواب:

چار ہو یا رضاۓ نماز میں سر سے اوڑھنا چاہیے نماز سے باہر اختیار ہے سر سے اوڑھنے خواہ شانوں سے اس میں عورتوں سے مشابہت کہنا جہالت ہے صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سرمبارک سے چادر سر اور اوڑھی اور حضور اس وقت ناقہ پر سوار تھے۔ جامع ترمذی میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس قدر کثرت سے کپڑا سرمبارک پر اوڑھنے کے تیل میں ذوب جاتا تھا۔ مجعم کبیر، طبرانی میں ان دونوں صحابیوں رضی اللہ عنہما سے ہے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا، کپڑا سر سے اوڑھنا ایمان والوں کی وضع ہے اور اسے نماز میں مکروہ کہنا بے اصل و غلط ہے۔ کتب محدثہ میں کہیں اس کی کراہت مذکور نہیں۔ سعید بن منصور استاد بخاری و مسلم اپنی سنن نسائی میں ابو الحلاء سے راوی میں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ چادر سر پر اوڑھنے نماز پڑھ رہے تھے ہاں اسے مکروہ فرمایا ہے کہ کپڑا اس طرح اوڑھنے کے ناک یا منہ یا داڑھی چھپ جائے، مراثی الفلاح میں ہے مجعم کبیر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا جو کوئی شخص نماز اس طرح نہ پڑھے کہ کپڑا ناک پر پڑے کیونکہ یہ شیطانی وضع ہے مند احمد و سنن اربعہ و متندر اک حاکم میں بسند صحیح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس سے منع فرمایا کہ آدمی سر یا شانوں سے کپڑا اوڑھ کر اس کے دونوں کنارے چھوڑ دے اور اس سے کہ دہن کپڑے سے چھپائے مند الفروع میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا۔ خبردار کوئی شخص نماز میں داڑھی چھپائے کہ داڑھی چہرے سے ہے ہدایت شرح وقایہ و مراثی میں ہے۔ علامہ شربنیانی کی عبارت یہ ہے ..... امام صدر الشغیریہ کے لفظ یہ ہیں ..... ان عبارتوں سے صاف ظاہر ہے کہ کپڑا سر سے اوڑھنے خواہ شانوں سے اس میں کراہت نہیں۔ کراہت اس میں ہے کہ اس کے دونوں آنچل لئے چھوڑ دے۔ بحر الرائق ہے ..... رووالخمار میں ہے ..... یعنی سر سے چادر اوڑھنے کو نماز میں مکروہ نہ کہا بلکہ اس کے پلوکارا کا نے کو بلکہ حدیث تو سبھی فرماتی ہے کہ نماز میں سر سے نہ اوڑھنا ہی مکروہ ہے ابو قیم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ

(علیہ السلام) نے فرمایا۔ اللہ عز وجل ان لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جو نماز میں اپنے عمامے اپنی چادروں کے شیخوں کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۷:

جماعت کھڑی ہے نماز ہو رہی ہے۔ امام کے پیچھے صرف ایک صفائح ہے جو بالکل پر ہے اور ایک آدمی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایک نمازی اور آیا اب اس کو اکیلا کھڑا ہوتا چاہیے یا صاف اول میں سے کسی آدمی کو پیچھے کھینچتا چاہیے بر لقدر ثانی و اتنی جانب سے یا باعث میں سے۔ کیا یہ نمازی درمیان صفائح میں سے نمازی کو کھینچ سکتا ہے یا نہیں اگر کھینچ نہیں سکتا مگر اس نے درمیانی صفائح میں سے ایک نمازی کو اپنے پر ابر کھڑا کرنے کو کھینچ لیا اور بعدہ اگلی صفائح کے نمازوں سے کہنا شروع کیا کہل جاوہ تو شرعاً اس پر (کھینچ لینے پر) کوئی الزام ہے یا نہیں اس کے کہنے پر ایک شخص نماز کے اندر اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسرے سے جاتا اس ہٹنے والے کی نماز ہوئی یا نہیں؟

الجواب:

اس زمانہ میں کھینچا منع ہے بلکہ اسے چاہیے کہ جب اگلی صفائح میں کہیں جگہ نہ ہو۔ صفائح کے پیچھے امام کے مجازی کھڑا ہوا اور نیت باندھ کر خواہ بے باندھے صفائح میں سے ایک کو اشارہ کرے کہ میرے ساتھ آہل اور جسے اشارہ کیا ہے حکم ہے کہ وہ نہ مانے اب یہ تھا صفائح کے پیچھے پڑھے اور کراہت نہ رہی کہ اس کی قدرت میں جتنی بات تھی کرچکا۔ فتح القدیر باب الاممہ میں ہے ..... در حقیقت مکروہات الصلة میں ہے ..... روا المختار میں ہے ..... اگر اس نے کسی کو کھینچا اور وہ اس کی اطاعت کے لئے کھینچ آیا۔ اس کی نماز جاتی رہی اور اس کے کہنے پر مل گیا اگر اس کے کہنے سے ملا تو اس کی نماز جاتی رہی اور اگر حکم شرعی سمجھ کر ملا تو ہو گئی۔ طحاوی علی الدر المختار ..... واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۸:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ حالت جنابت میں ہاتھ و حوکر کلی کر کے کھانا کھانا کراہت رکھتا ہے یا نہیں؟

الجواب:

نہ اور بغیر اس کے مکروہ اور افضل تو یہی ہے کہ غسل ہی کر لے ورنہ وضو کرے جہاں جب ہوتا ہے۔ ملائکہ رحمت اس مکان میں نہیں آتے۔ کما نقطتہ به الاحادیث در حقیقت میں ہے

لابس بالکل و شرب بعد مضمضة و غسل يدواما قبلها فيكره للجنب بل خصا

روا المختار میں حاشیہ علامہ جلی سے ہے۔

وضوء الجنب لهذه الاشياء مستحب كوضوء للحدث.

امام طحاوی شرح مانی الاطار میں مالک بن عبارہ عافی رضی اللہ عنہ سے راوی کہ انہوں نے حضور پر نور (علیہ السلام) کو دیکھا کہ حاجت غسل میں کھانا تناول فرمایا۔ انہوں نے فاروق عظیم رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا۔ فاروق عظیم رضی اللہ عنہ کو اعتبار نہ آیا انہیں کھینچتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر لائے اور عرض کی یا رسول اللہ (علیہ السلام) یہ کہتے ہیں کہ حضور نے بحالت جنابت کھانا تناول کیا فرمایا

نعم اذا توضات اكلت وشربت ولكن لا اصلی ولا اقرحتی اغتسل

ہاں جب میں وضو کروں تو کھانا پیتا ہوں مگر نماز و قرآن مجید نہیں پڑھتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۱۹:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ حالت ناپاکی میں مسجد میں جانا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب:

حرام ہے مگر بضرورت شدیدہ کہ نہانے کی ضرورت ہے اور ڈول رسی اندر رکھا اور یہ اس کے سوا کوئی سامان نہیں کر سکتا، نہ کوئی اندر سے لاد بینے والا ہے یا کسی دشمن سے خائف ہے اور مسجد کے سوا جائے پناہ نہیں اور نہانے کی مہلت نہیں اور ایسی حالتوں میں تمیم کر کے جا سکتا ہے صورت اولیٰ میں صرف اتنی

ویر کے لئے ڈول رسی لے اور آئے اور صورت ثانیہ میں اگر دشمن سر پر آگیا۔ تم کی بھی مہلت نہیں تو بے تم چلا جائے اور کوڑا بند کرنے کے بعد تم کر لے۔

## فَإِنَّ الْحَقِيقَةَ إِذَا جَتَّمَعَ أَقْدَمَ حَقُّ الْعَبْدِ لِفَقْرِهِ وَغَنِيَ الْمُوْلَى

صرف اس ضرورت کے لئے گرم پانی سقا یے میں رہتا ہے اور سقا یہ مسجد کے اندر ہے باہر تازہ پانی موجود ہے گرم پانی لینے کو بے غسل مسجد میں جانا جائز نہیں مگر وہی ضرورت کی حالت میں کہ اگر تازہ پانی سے نہایے گا تو صحیح تجربے یا طبیب حاذق مسلم غیر فاسق کے بتانے سے معلوم ہے کہ یہاں ہو جائے یا مرض بڑھ جائے گا اور باہر کیں گرم پانی کا سامان نہیں کر سکتا نہ اندر سے کوئی لادینے والا ہے تو تم کر کے اندر جا کر لا سکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴۰:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ نہایے کی حاجت ہوا اور اس حالت میں مسجد کے لوٹے وغیرہ کونا پاک ہاتھ سے چھونا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب:

ہاتھ پر اگر کوئی نجاست گلی ہے کہ ہاتھ سے چھوٹ کر گلگ جائے گی، چھونا جائز نہیں اگر لوٹانہ مسجد کا ہونہ کسی دوسرے شخص کا بلکہ خود اپنی ملک ہو کہ بلا ضرورت پاک شے کونا پاک کرنا جائز و گناہ بحر الرائق بحث ماء مستعمل میں بدائع سے ہے۔ **تبخس الطاهر حرام** اور اگر کوئی نجاست نہیں۔ صرف نہایے کی حاجت ہے تو جائز ہے اگرچہ ہاتھ یا لوٹا تر ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴۱:

استجایتی پیشاب پا خانہ کے بچے ہوئے پانی سے جائز ہے یا نہیں اور وضو کی حرمت میں اس وجہ سے فرق تو نہیں آتا کیا؟

الجواب:

جائز ہے اور اس میں حرمت وضو کا کچھ خلاف نہیں کہ یہ پانی استعمال میں نہ آیا۔

## كَمَا لَا يَخْفِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

مسئلہ ۴۲:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ اگر پکی ہوئی کچھڑی یا چاول میں یا چونے میں چوہے کی میٹھی لٹکے تو کیا حکم ہے؟

الجواب:

چوہے کی میٹھی اگر چاول کچھڑی روٹی وغیرہ کھانے کی چیزوں میں نکل اسے پھینک کروہ اشیاء کھانی جائیں بشرطیکہ اس کارنگ یا بوبیا مزہ ان میں نہ آگیا ہو اور اگر چونے میں نکلے اور چونا جما ہوا ہے تو ان کے قریب کا پھینک کر کھائیں اور بہتا ہوا ہے تو اس سب سے احتراز کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴۳:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ قیمت جلد قربانی یا عقیقہ برآہ راست مسجد یا مدرسہ دینیہ میں صرف کی جاسکتی ہے یا تمیلیک مسکین کی ضرورت واقع ہوگی؟

الجواب:

ہاں جلد برآہ راست صرف کی جاسکتی ہے۔

## قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّجِرُوا

اور اگر مسجد و مدرسہ میں دینے کے لئے داموں کو فروخت کی تو دام بھی برآہ راست صرف کی جاسکتے ہیں۔ تبین الحقائق میں ہے۔

## لَا نَهُ قُرْبَةَ كَالْتَصْدِقَ

ان صورتوں میں تمیلیک مسکین کا ضروری جانشیرع مطہرہ میں زیادت کرنا جس پر کوئی دلیل شرعی نہیں تو اپنی طرف سے ایجاد و ایجاد ہوا۔

ہاں اپنے خرچ میں لانے کے لئے داموں کی پیچی تو اس کی سبیل تصدیق ہے کہ ملک خبیث ہے برادرست مسجد و مدرسہ میں نہ دے۔

## فَإِنَّ اللَّهَ طَيْبٌ لَا يَقْبُلُ إِلَّا الطَّيْبَ

اس سوال کا جواب پہلے فتویٰ میں نظر آتا عجیب ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴۸:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرح متن ان مسائل میں (۱) از روئے شریعت اسلامیہ قبرستان کا بیع و رہن جائز ہے یا نہیں (۲) قبرستان کی زمین کسی کی ذاتی ملکیت ہو سکتی ہے یا نہیں اور مخصوص قبرستان بنانا کیسا ہے اور اس کی نسبت کیا احکام شرعی ہیں (۳) قبروں کو منہدم کرتے ہوئے یا ویران کرتے ہوئے یا کھو دتے ہوئے دیکھ کر کوئی مسلمان ایسا کرنے والے کو روکنے کا شرعاً مجاز ہے یا نہیں۔ (۴) قبرستان میں یا ان کی زمین متعلق میں بول و برآز یا گندگی وغیرہ پھینکنا یا قبرستان کو گندگی کا مخزن بنانا کیسا اور اس کی نسبت کیا حکم ہے۔ (۵) مسلمانوں پر قبرستان کی حرمت کس حد تک واجب ہے؟ بیٹو اتو جروا۔

الجواب:

(۱) و (۲) عامہ قبرستان وقف ہوتے ہیں اور وقف کے بیع اور رہن حرام ہے اور جو خاص قبرستان کسی کی ملک ہو جس میں اس نے مردے دفن کئے ہوں مگر اس کام کے لئے وقف نہ کیا ہو وہ بھی موضع قبور کو نہیں سکتا ہے نہ رہن کر سکتا ہے کہ رہن میں تو یہن اموات مسلمین ہے اور ان کی تو یہن حرام ہے۔ (۳) حرام ہے مگر یہ کہ کسی کی مملوک زمین میں بے اجازت کے کسی نے مردہ دفن کر دیا ہوا اور اس نے اسے جائز نہ کھاتا تو اس کے نکلوادی نے اور زمین خالی کر لینے اور کھیتی اور عمارت ہرثے کا اختیار ہے۔ (۴) جو شخص ایسے جرم شدید کا مرتكب ہو مسلمان پر واجب ہے کہ بقدر اسے روکے جو اس میں پہلو تھی کرے گا اس فاسق کی طرح مستحق عذاب نار ہوگا۔

## قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَانُوا إِلَّا يَتَنَاهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لِبَشِّسْ مَا كَوْنُوا يَفْعَلُونَ

(۵) حرام حرام سخت حرم اور اس کا مرتكب مستحق عذاب نار و غضب جبار ہے۔ (۶) قبور مسلمین پر چلانا جائز نہیں اس پر پاؤں رکھنا جائز نہیں یہاں تک کہ ائمہ نے تصریح فرمائی کہ قبرستان میں جو نیاراست پیدا ہواں میں چلانا حرام اور جس کے اقرباء ایسی جگہ دفن ہوں کہ گروان کے اور قبریں ہو گئیں اور اسے ان کی قبور تک اور قبروں پر پاؤں رکھنے بغیر جانا ممکن ہے وہ دوری سے فاتحہ پڑھے اور پاس نہ جائے زیادہ تفصیل ہمارے رسالہ "اہلاک الوہا بیان" میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۴۹:

کیا فرماتے ہیں کہ علمائے دین اس مسئلہ میں کہ قبور پر روشنی کا کیا حکم ہے؟

الجواب:

قبور پر خواہ کہیں حاجت سے زیادہ اور بے منفعت روشنی کے لفوا سراف ہو منوع ہے۔ یونہی خود قبر پر چاغ رکھنا کہ سقف قبر حق میت ہے اور اس میں اس کی اذیت اور جوان خدرات سے پاک ہو وہاں روشنی منوع نہیں مثلاً قبر جبکہ سرراہ ہو یا مزار کسی ولی اللہ کا ہو وہاں اس نیت سے کہ زگاہ عوام میں باعث وقار ہو اس علامت سے جائیں کہ مزار کسی محبوب خدا کا ہے اسے تمکن چاہیں اس کے پاس حق تعالیٰ سے دعا کریں یہ صورتیں جواز کی ہیں جن کی ممانعت پر شرع سے اصلاً دلیل نہیں فقر غفرلہ تعالیٰ نے خاص اس مسئلہ میں رسالہ طوال النور فی حکم السراج علی القبور رکھا تحقیق مقام اس میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

مسئلہ ۵۰:

بعض بارا میں روز عیدین یا استقاء لوگ مل کر علم شہر میں قصائد نعمت نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) پڑھتے ہوئے عیدگاہ تک لے جاتے ہیں یہ کیسا ہے۔ بیٹو اتو جروا؟

الجواب:

جبکہ اس کے ساتھ کوئی منکر شرعی نہ ہو اور جم مسلمین و علامت جماعت اہل دین کے سوا اور کوئی غرض یا جامرانی نہ ہو تو علم نمکور کا عیدگاہ تک لے جانا بلاشبہ جائز و مباح ہے جس کی ممانعت پر شرع مطہرہ سے اصلاً دلیل نہیں اور یہی اس جواز کوہس ہے۔ علامہ عبدالغنی نابلسی پھر علامہ شای شرح تنویر میں فرماتے

ليس الاحتياط في الافتداء على الله تعالى باثبات الحرمة الكراهته الذين

لайд لهم من دليل بل في القول هالا باجة التي هي الاصل

علاوه اذ يزبح بخاري شریف میں ایک باب وضع کیا۔ باب الحلم بالصلی اور اس میں حدیث روایت کی

عن عبد الرحمن بن عباس قال سمعت ابن عباس رضى الله عنهمما

قال له اشهدت له مع النبي ﷺ قال نعم ولو لا مكانی من الصغير ما شهدته حتى

الى العلم الذى عنددار كثير ابن الصلت فصلى ثم خطب الخ۔

تعین عبد الرحمن بن عباس رضى الله عنهمما کسی نے پوچھا آپ عید میں حضور اقدس ﷺ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں فرمایا ہاں اس قرب مزارات کے سب جو بارگاہ رسالت میں مجھے حاصل ہے ورنہ بچپن کے باعث حاضر ہوتا۔ حضور عید گاہ کو تشریف لے گئے یہاں تک کہ اس علم کے پاس پہنچ جو کثیر بن اصلحت کے مکان کے قریب تھا اول نماز پڑھی پھر خطبہ فرمایا علماء جو زیر فرماتے ہیں کہ یہاں علم بمعنی نشان ہو مجمع المذاہر میں ہے۔

### منه الى العلم الذى عند دار بفتح عين ولا الرية

عید گاہ زمانہ اقدس میں کف وست میدان تھی۔ علماء فرماتے ہیں کثیر بن بن اصلحت کا مکان بعد کو بنایا ہے۔ ابن عباس رضى الله عنہ نے موضوع علم کا پتا دینے کو اس کا نام لیا۔ ارشاد اساری میں ہے۔

### الذار المذكورة بعد العهد النبوى وانما عرف المصلى بالشهرتها علم

بمعنی نشان کے لئے وہاں بھی طریقہ معقول کہ روز عید لے جاتے۔ پھر واپس جاتے ہوں اس تقدیر پر یہ صورت عیدین کا خاص جزئیہ ہے۔

**وتفصیل المسئلہ فی فتاوانا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔**

یہ س علم کا حکم ہے وہاں جہاں اس سے کوئی محدود و شریعی ہوتا ہو مثلاً جن بلاد میں محرم کے علم رانج ہیں۔ عموم اسے ان سے ان کے جواز پر استدلال کریں اور فرقہ سمجھانے کی ضرورت پڑے وہاں اس سے احتراز ہی کیا جائے کہ کوئی امر ضروری نہیں اور احتمال و فتنہ و فساد عقیدہ ہے نہ ہر ایک کو سمجھا سکیں گے اور نہ ہر ایک کو سمجھانے سے سمجھے گا تو ایسی بات کرنی کیا ضرورت حدیث میں ارشاد ہوا ایسا ک و ما یعتذر منه واللہ تعالیٰ اعلم۔

**مسئلہ:** ۳۱

بسم اللہ الرحمن الرحيم کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ نماز پڑھنا اس مسجد میں جس میں قبر واقع ہو جائز ہے یا نہیں اور اگر قبر ایک جانب کو مسجد سے خارج ہو تو کیا حکم ہے؟

**الجواب:**

قبراً گر مسجد سے خارج ایک جانب کو واقع ہے تو جواز نماز میں کچھ بہتیں۔

قال في البحر الرائق و ذكر في الفتوى اذا غسل مرضانا من الحمام ليس

فيه تمثال لا باس به وكذا في المقبرة اذا كان فيها موضع اعد للصلوة وليس فيه قبر

ولا نجاسة انتهي ومثله في ملنیة المصلى وغنية المبتدى قلت فانا كان موضع في المقبرة

اعد للصلوة احاطت به القبور لم يكن بالصلوة به بالس فما ذكر بالمسجد الذي بجنبه قبر

خارج عن جلداته واقع عن يمينه اويساره انه الا ولی بالجواز واجدار

اور اگر داخل مسجد ہے تو نماز اس کے اوپر پڑھنا مکروہ ہے۔

قال الشیخ السید محمد امین الشہیر بابن العابدین فی رد المحتار وعلی الدر  
المختار تکرہ الصلوٰۃ علی القبر والی القبر لودود النہی عن ذلک انتہی

اور ان کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنا چھوٹی مسجدوں میں مطلقاً مکروہ ہے اور مسجد بکیر اور صحرائیں اگر قبریں مسجد کی جگہ واقع ہو مکروہ ہے ورنہ نہیں

قال فی الفتاوی الہندیۃ الشہیرۃ بالفتاوی الغالیۃ کیہیہ ان کان بینہ و بین القبر المقدار مالو کان  
فی الصلوٰۃ ویمر انسان لا یکرہ فھنا ایضاً لا یکرہ و کذافی التاتار خانیۃ انتہی قال الشیخ الامام  
المفتی علاؤ الدین محمد بن علی بن محمد علی بن عبدالرحمن بن محمد الحصکفی الدمشقی  
فی الدار المختار شرح تنویر الابصار ولا یفسدھا مردر مار فی السحراء او بمسجد  
کبیر بموضع سجودہ فی الاصح او مرورہ بین یدیہ الی حائط القبلة فی بیت و  
مسجد صغیر فانہ کبّقعة واحده وان ائم المار انتہی ملتفطا

اور بعض ائمہ کے نزدیک مطلقاً بکوہ کا اعتبار ہے صحراء یا مسجد صغیرہ ہو یا کبیر

قال امام احمد بن محمد الحطیب العسطانی فی الرشاد الساری لشرح صحیح البخاری  
فالبیضاوی لما کانت اليهودو النصاری یسجدون لقبور الانبیاء تعظیماً لشانهم و يجعلونها قبلة  
یتوجھون فی الصلوٰۃ نحوها واتخذوها او ثاناً لعنهم النبی ﷺ ومنع المسلمين عن ذلک مامن  
اتخذ مسجداً فی جوار صالح وقصد التبرک بالقبور منه لا تعظیم ولا للتوجہ الیه فلا یدخل فی  
الوعید المذکور انتہی و قال الشیخ عبدالحق بن سیف الدین بن سعد الله المحدث الدهلوی  
البخاری فی شرح المشکوٰۃ عن بعض الائمه واما اتخاذ مسجد لحوار بنی او عبد صالح والصلوٰۃ  
فیه عند قبره لاعظمیه او للتوجہ نحو القبر بل لحصول مددنته و تکمیل العبادة ببرکة مجاورة  
ببرکة مجاورة ارواحهم الطاهرة فلا حج فی ذلک انتہی.

یقول مرتضی اسماعیل و مرقد حضرت ہاجرہ عین حطیم میں واقع ہے۔ محمد امام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے با مرثیہ رسالت علیہ افضل  
الصلوٰۃ والتحیہ اس میں نماز پڑھی اور آپ نے اس نماز کو قائم مقام اصلوٰۃ فی الکعبہ کے قرار دیا۔

روای الامام ابو داؤد و سلیمان بن اشعث بن اسحق بن بشیر السحسنی والحافظ ابو عیسیٰ  
محمد بن عیسیٰ بن سورۃ بن موسیٰ بن الضحاک السلمی الترمذی ولفظ لا بی عیسیٰ قال  
حدیثی فتنیہ فذکر باسناده عن عائشہ قالت كنت احب ان ادخل البيت فاصلی فیه فاخذ رسول  
الله ﷺ بیدی فادخلنی الحجران اردت دخول البيت فانما هو قطعة من البيت الحدیث قال

ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال العلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز آبادی في القاموس الحجر بالكسر ما هواء الحطيم المدار بالكتبة شروها الله من جانب الشمال انتهى بالالقتاط قال الامام الحصکفی فی الدار المفتار وبه قبر اسماعیل وهاجر انتھی وقال ابن درید فی الحجرة فی قبرها وابنها اسماعیل علی نبینا وعلیه الصلوة فالسلام انتھی کذا قال الاقاضی الامام ابو محمد بدر الدین شیخ الاسلام محمود بن احمد یعلنی فی الینایة حاشیة الهدایة والعلم عند ربی منه البدایه والیه النهایه .

## لاشك في صحت جواز الصلة

الجواب الجواب

العبد المذنب احمد رضا

محمد نقی علی عفی عنه

على ما صح به المجيب المصيب

عفی عنه بحمد المصطفی (صلی اللہ علیہ وسلم)

على ما صرخ به المجيب المصيب

اصاب من اجاد

اجاد المجيب وافاد

محمد يعقوب على

محمد سلطان حسن عفأ الله عنه

عفی عنه صدیقے

محمد احسن الصدیقی عفی عنه

محمد احسن الصدیقی

احمد رضا خان عفی عنه

محمد احسن الصدیقی

مسئلہ ۳۴:

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام و مفتیان عظام اور فیضہم المولی العلام ان مسائل میں بنیو تو جروا؟

الجواب:

(۱) ایک صاحب مسگی مولوی اشرف علی ساکن قصبه تہر ضلع شاہجهان پور دوسرے صاحب حکیم عبداللہ مقیم تہر ہیں۔ حکیم صاحب کا بیان ہے کہ یہ زید فاقس فاجر نہ تھا اس کو برائے کہا جائے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس کے وہاں نہ جانا چاہیے تھا کیون گے اور یہ ملکی جنگ تھی دوسرے یہ کہ نماز فجر کے بعد مسلمانوں نے ان سے مصافحہ کرنا چاہا انہوں نے مصافحہ کیا اور بدعت بتایا۔ کیا حکیم صاحب کا یہ بیان سراسر غلط نہیں۔ کیا انہوں نے حضرت سید الشہداء رضی اللہ عنہ کی شان ارفع و اعلیٰ میں گستاخی نہ کی۔ اور کندب بیانی نہ دی۔ کیا مصافحہ سے دست کشی و انکار اس امر کو ثابت نہیں کرتا کہ ان کی مراد بدعت یہ ہے اور ان کا یہ فعل وہابیہ ہے۔

(۲) اول الذکر مولوی صاحب ایک زمانہ تک مدرسہ مولوی لیٹین واقع بریلی محلہ سرائے خام کے مدرسہ ہے جسے ہیں کیا ان کی وہابیت کو اسی قدر کافی نہیں کہ بدعت ہب کے مدرسہ میں ملازم رہ کر اس مدرسہ کے دستور اعمال درس تعلیم کی پابندی کر کے درس دیا جائے کہ علم غیب حبیب خدا سید ہر دوسرے اعلیٰ افضل الخیریہ والثنا میں وہابیانہ خیال مغفریانہ قیل و قال ہے۔

جو کوئی شخص صحیح العقیدہ علم حضور سراپا نور کو روز ازل سے قیامت تک کے تمام اشیاء ذرہ کلیتہ و جزئیتہ محیط جانے اور ان کے واسطے مکان و مائیکون کا علم مانے اور قائل علم غیب خسہ ہو وہ شخص ان مولوی صاحب کے نزدیک مفصل وضال قابل عتاب و نکال۔

اکابر علمائے اہلسنت کثرہم اللہ تعالیٰ کی شان میں جن کی مدح و ستائش میں مفتیان علام اور علمائے ذی الاحترام حرثین طینین وروم و شام وغیرہم مبالغہ فرمائیں اور ان کو پیشوا سردار علمائے اہلسنت بتائیں یہ صاحب بیہودہ الفاظ و تاشاکیتہ کلمات زبان پر لا کیں۔

ان صاحب کے تمام اوصاف میں باطنیہ مدرسہ مذکورہ حکیم صاحب مذکورہ بھی شریک وہم خیال۔ یہ دونوں صاحب مولوی قاسم بن نتوی بانی مدرسہ دیوبند و مولوی رشید احمد گنگوہی و مولوی اشرف علی تھانوی کو اپنا پیشوا جانتے ہیں اور سرتاج اہلسنت مانتے ہیں۔ کیا یہ دونوں صاحب کم سے کم بدعتی و بدعت نہیں کیا ان کے ساتھ (ان احادیث و اقوال کے مطابق عمل نہ کیا جائے جو فتاویٰ الحرمین میں طبع معمی میں مذکور ہیں۔

عن ابی هریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ ایا کم وایا هم لا یضلُونکم ولا یفتونکم

صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا ان لوگوں سے الگ رہو انہیں اپنے سے دور رکھو کہیں وہ تمہیں بہکانہ دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔

ولا بی داؤ د عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ وان مردو<sup>ا</sup>  
افلا تعود وهم وان ماتو افلا تشهد وهم

ابوداؤ کی حدیث میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے نبی ﷺ نے فرمایا وہ بیمار پڑیں پوچھنے نہ جاؤ مر جائیں تو جنازہ پر حاضر نہ ہو۔

زاد بن ماجہ عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ وان يقتسموا هم فلا تسلموا عليهم  
ابن ماجہ نے برداشت جابر رضی اللہ عنہ اس قدر اور بڑھایا جب انہیں ملوتو سلام کرو۔

وعند العقیلی عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ لا تجالسوهم  
وتشاربوهم ولا تواکلوا هم ولا تناکحوهم۔

عقیلی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی نبی ﷺ نے فرمایا اتنے ساتھ نہ بیٹھو۔ ساتھ پانی نہ پیو۔ ساتھ کھاؤ نہ شادی بیا ہت کرو۔

زاد ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تصلوا معهم۔

ابن حبان نے انہیں کی روایت سے زائد کیا ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھوان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔

وللہ یلمی عن معاذ رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ انی بری منهم وهم براء  
منی جهادهم کجہاد الترک والدیلم۔

دیلمی نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی ﷺ نے فرمایا میں ان سے بیزار ہوں۔ وہ مجھ سے بے علاقہ ہیں ان پر جہاد ایسا ہے جہاد کا فران ترک و دیلم پر۔

ولا بن عساکر عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ اذا رأيتم صاحب بدعة  
فاکفر روا فی وجهة فان الله یبغض کل مبتدع ولا یجوز احد منهم علی صراط  
لکن یتناقرون فی النار مثل الجراد والذباب۔

ابن عساکر رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ سے راوی نبی ﷺ فرماتے ہیں جب کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے رو برواس سے ترش روئی کرو۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے ان میں کوئی پل صراط پر گزرنہ پائے گا بلکہ تکڑے تکڑے ہو کر آگ میں گر پڑیں گے جیسے نڈی اور کھیاں گرتی ہیں۔

والطبرانی وغيره عن عبد الله بن بشير رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ من وتر  
صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام

جو کسی بد نہ ہب کی توقیر کرے اس نے اسلام کے ذھانے پر مدد وی دی۔

وله في الكبير ولا بي نعيم في الحلية عن معاذ رضي الله عنه عن النبي (عليه السلام) من مشى الى صاحب بدعة ليوقره فقد اعان على هدم الاسلام وغيره من الاحاديث .

نیز طبرانی مجعم بکری ابویحیم نے حلیہ میں معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں جو کسی بد نہ ہب کی طرح اس کی توقیر کرنے کو چلے اس نے اسلام ذھانے میں اعانت کی اور اس کے سوا اور حدیثیں ہیں۔

قال العلماء في كتب العقاد كشرع المقصود وغيره ان حكم  
المبتدع البعض والا هانة والرد والطرد

علماء کتب عقائد مثل شرع مقاصد وغیرہ میں فرماتے ہیں کہ بد نہ ہب کا حکم اس سے بغض رکھنا اس ذات کو دنیا اس کا روکرنا اسے دور ہائکنا۔

وفي غنية الطالبين قال فضيل بن عياض من اجب صاحب بدعة احبط الله عمله واخرج نور الايمان من قبله و اذا علم الله عزوجل من رجل انه مبغض لصاحب بدعة رجوت الله تعالى ان يغفر ذنبه وان قل علمه واذرايت مبتدعا في طريق فخذ طريقا اخرا.

غنى الطالبين شریف میں ہے فضیل ابن عیاض نے فرمایا جو کسی بد نہ ہب سے محبت رکھنے کے اس کے عمل جب ہو جائیں اور ایمان کا نور اس کے دل سے نکل جائے گا اور جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جانے کے وہ بد نہ ہب سے بغض رکھتا ہے تو مجھے امید ہے کہ مولیٰ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اگرچہ اسکے عمل تھوڑے ہوں جو کسی بد نہ ہب کو راہ میں آتا دیکھو تو تم دوسرا راہ ہو لو۔

(۳) جب شرع مطہر نے ایے لوگوں سے اس درجہ نفرت دلائی اور اس قدر برائی بیان فرمائی تو کیا مسلمانوں کا فرض مذہبی نہیں کہ ان کو مسجد میں آنے سے روکیں ان سے ہر قسم کا قطع تعلق کریں۔ علی الخصوص وہ شخص جس کے ہاتھ میں مسلمانوں کا کام ہو اور مسلمان اس کو مانتے ہوں اور عزت اور وقار کی نظر سے دیکھتے ہوں خواہ باعث علم یا بجهت پیری مریدی یا بخیال تو انگری وغیرہ وغیرہ اس پر سخت ضروری کہ ان کو دخول مسجد سے حتی الوعظ روکے اور ان کے ساتھ میں جوں سے مسلمانوں کو بازر کر کے جو شخص ان مولوی صاحب و حکیم صاحب کے خیالات باطلہ و حالات فاسدہ پر مطلع ہو کر ان دونوں کو امام نہانے اور ان کے پیچھے نماز پڑھے، کہہ یہ مولویوں کے جھٹکے ہیں یہیں ان سے کیا سروکار آخر یہ دونوں عالم تو ہیں کہ وہ زبان کار اور انہیں مفسدین فی الدین میں سے نہیں اور وہ نماز اسکی باطل و مرد و نہیں حالانکہ جن تین علمائے مذکورین کو یہ دونوں پیشواجانتے ہیں ان کے بارے میں مفتیان و علمائے مکہ کرم و مدینہ طیبہ نے یہ حکم دیا جیسا کہ فتاویٰ حام الحرمین میں مذکور ہے۔

ان هولاء العراق الوقعين في السوال غلام احمد القادياني و رشيد احمد و من تبعه كخبل  
احمد الانبهتى واشر فعلى وغيرهم لا شبهة فى كفرهم بلا مجال بلا لا شبهة فى كفر  
من شك فى كفرهم بحال من الا حول .

بے شک یہ طائفے جن کا تذکرہ سوال میں واقع ہے۔ غلام احمد قادری اور رشید احمد گنگوہی اور جو اس کے پیرو ہوں جیسے خلیل احمد انہیں اور اشرف علی وغیرہ ان کے کفر میں شبہ نہیں اور نہ شک بحال بلکہ جو ان کے کفر میں شک کرے بلکہ کسی طرح کسی حال میں انہیں کافر کہنے میں توقف کرے تو اس کے کفر میں شبہ نہیں اسی میں ہے۔

اظہر فضائحهم القبيحة في معتمد المستند فلم يبق من نتجائهم الفاسدة فيه الا وزار يقها فلي يكن

من التمسك بتلك العجالة السنوية تظفر في بيان الرد عليهم بكل واضحة دامغة حلية لاسيما المتصل بحل رأية هذه الفرففة المارقة التي تدعى بالوهابية ومنهم مدعى النبوة غلام احمد القادياني والممارقة لاخر المنقضى لشان الالوهية والرسالة قاسم النانوتوي ورشيد احمد الگنگوھی وخليل احمد الانبھتی وشرف على الثانوی ومن خذا حذوهم انتہی بقدر الضرورة.

مصنف نے اپنی کتاب معتمد المستبد میں اس گروہ کی بڑی رسائیاں کیں۔ پس ان کے فاسد عقیدوں سے ایک ایک بھی بغیر پوچ چکر کئے نہ چھوڑا تو اے مخاطب تجوہ پر لازم ہے کہ اس روشن رسالہ کا دامن پکڑے جسے مصنف نے بزوہی لکھ دیا تو ان گروہوں کے رو میں ہر ظاہر روشن و سرکوب دلیل پائے گا۔ خصوصاً جو اس گروہ خارج از دین کوں ہے جسے وہا پہی کہا جاتا ہے اور ان میں مدّی نبوت غلام احمد قادیانی ہے اور دین سے دوسرا نکٹہ والا شان الوہیت و رسالت گھٹانے والا قاسم نانوتلوں ورشید احمد گنگوھی اور خلیل احمد انھٹی اور اشرف علی تھانوی اور جوان کی چال چلا اسی میں ہے۔

وبالجملة هو لاء الطائف كلهم كفار مرتدون خارجون عن الاسلام باجماع المسلمين وقد قال في البزارية والدرر والغرر والفتاوی الخيرية والانهر والدر المختار وغيرها من معتمدات الاسفار في مثل هولاء الكفار من شك في كفره وعدابه فقد كفرا و قال في الشفاء الشريف ونكر من لم يكفر من دان بغير ملة اسلام ادرقف فيهم اوشك اه وقال في البحر الرائق وغيره من حسن كلام اهل الاهواء او قال معنوی او كلامله معنی صحيح ان كان ذالك كفرا من القائل كفر المحسن اه وقال الامام ابن حجر في الاعلام في فصل الكفر التفق عليه بين ائمۃ الاعلام من تلقط بلفظ الكفر يکفر وكل من استحسنه او رضي به يکفر اه

خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ طائفے سب کے سب (امعیلیہ نذریہ۔ امیریہ، قاسمیہ۔ مرزا نیا۔ رشیدیہ، اشرفیہ) مرتد ہیں۔ باجماع امت اسلام سے خارج ہیں اور بے شک بزاریہ اور ورود فتاویٰ خیریہ اور مجتمع الانہر اور در حقیقت اور غیرہ معتمد کتابوں میں ایسے کافروں کے حق میں فرمایا ہم اسے کافر کہتے ہیں جو ایسے کو کافرنہ کہے جس نے ملت اسلام کے سوا کسی ملت کا اعتقاد کیا یا ان کے بارے میں توقف کرے یا شک لائے اور بحر الرائق وغیرہ میں فرمایا جو بدویوں کی بات کی تحسین کرے یا کہے کچھ معنی رکھتی ہے یا اس کے کلام کے کوئی صحیح معنی ہیں اگر اسے کہنے والے کی وہ بات کفر تھی تو یہ جو اس کی تحسین کرتا ہے۔ یہ بھی کافر ہو جائے گا اور امام ابن حجر نے کتاب الاعلام کی اس فصل میں جس میں وہ باتیں گنائی ہیں جن کے کافر ہونے پر ہمارے ائمۃ اعلام کا اتفاق ہے۔ فرمایا جو کفر کی بات کہنے وہ کافر ہے اور اس بات کو اچھا بتائے یا اس پر راضی ہو وہ بھی کافر ہے۔ اتنی۔

تو موافق ارشاد علمائے کمہ معظمه و مدینہ طیبہ و مطابق حکم معتمد المستبد نذری حسین دہلوی و امیر احمد سہوائی و امیر حسن سہوائی و مرزا غلام احمد قادریانی ورشید احمد گنگوھی وشرف علی تھانوی اور ان سب کے مقلدین و تبعین و پیروان و مددخ خوں با اتفاق علمائے اعلام کافر ہوئے اور جوان کو کافرنہ جانے ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی بلاشبہ کافر ہے چہ جا یکدی پیشو اور سردار جانا۔

والعياذ بالله الكريم وهو يهدى من يشاء الى صراط مستقيم .

ہم کو چونکہ اختصار منظور تھا، لہذا ان گمراہ گروں کافروں کے وہ اقوال ملعونة و مردودہ جن پر حکم فرق و کفر کو لگایا بالکل نقل نہیں کئے اور ان اقوال پر علمائے حریمین نے جس قدر اتزام لگائے ہیں ان میں سے صرف دس پانچ تحریر ہو جو صاحب ان فرق باطلہ عقوبت مآل اور ان پر احکام علمائے اہل کمال پر اطلاع چاہیں وہ فتاویٰ الحرمین و حسام الحرمین کا مطالعہ فرمائیں۔

(۲) ایسے نازک وقت میں کہ چہارم طرف سے دین اسلام پر حملہ ہو رہے ہیں اور نیچ کنان سنت یکبارگی ثوٹ پڑے ہیں۔ کیا علمائے الحست پر

واجب نہیں کہ اپنے علم کو ظاہر کریں اور میدان میں آکر تحریر اتفاق راجحے سنت و امانت بدعت و نصرت ملت فرمائیں۔ اگر ایمان کریں سکوت و خاموشی سے کام لیں تو کیا اس حدیث شریف کے موردنہ ہوں گے جو قاوی الحرمین میں مذکور ہے۔

قال الامام ابن حجر المکی فی الصواعق المحرقة ان الحاصل الدعی لی علی التالیف فی ذلک  
وان کنت قاصرا عن حقائق ما اخراجہ الخطیب البغدادی فی الجامع وغيره انه (علیہ السلام)  
قال اذا اظهرت الفتن او قال البدع و سب اصحابی فلیظہر العالم علمہ فمن لم يفعل ذلك فعلیه  
لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل الله منه صرفاً.

امام ابن حجر کی صواعق محرقة میں فرماتے ہیں واضح ہو کہ اس تالیف پر میرے لئے باعث و سب اگرچہ میرے ہاتھ یہاں کے حقائق سے کوتا ہے۔ وہ حدیث ہوئی جو خطیب بغدادی نے جامع میں اور ابن کے سوا اور محدثین نے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب فتنے یا فرمایا بد نہیں ہیاں ظاہر ہوں اور میرے صحابہ کو برآ کہا جائے تو واجب ہے عالم اپنا علم ظاہر کرے جو ایمان کرے گا۔ اس پر اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول فرمائے گا نہ لفظ۔

(۵) جو شخص مسجد میں آکر اپنی زبان سے لوگوں کو ایذا دیتا ہو اس شخص کو مسجد سے نکلنے کا حکم ہے اس کے نکلنے کے بارے میں درج تارکا یہ قول نص صریح ہے یا نہیں

واکل نحو ثوم و يمنع منه و كذا اكل مرذو لو بلسانه.

یعنی مسجد میں داخل ہونے سے بدبودار چیزوں مثلاً کچا ہنس کھانے والے کو منع کیا جائے اور اسی طرح ہر ایذا دینے والا اگرچہ زبان سے دیتا ہو دخول مسجد سے روکا جائے۔ رد المحتار میں تحت

قول واکمل نحو ثوم فرمایا کبصل و نحو فماله رائحة کریہہ للہدیت الصحیح فی  
النهی عن قربان اکل الثوم والبصل المسجد قال الامام العینی فی شرح علی الصحیح  
البخاری قلت علة النهي اذى الملائكة واذ المسلمين .

یعنی یہیے پیاز وغیرہ ان چیزوں سے جن میں بدبو ہو یہ حکم موافق حدیث صحیح ہے جو کچا ہنس اور پیاز کھانے والے کی ممانعت دخول مسجد میں ہے امام عینی نے اپنی کتاب میں صحیح بخاری پر لکھی ہے فرمایا میں کہتا ہوں دخول مسجد سے ممانعت کا ایذا ایسے مسلمانان ہے۔

والحمد لله رب العلمين وافضل الصلة واکمل التسلیمات علی اشرف الانبیاء والمرسلین  
وعلیه وصحبه ومن تبعهم اجمعین .  
نقیر محمد ضیاء الدین الحنفی بابی المساکین .

الجواب:

الحمد لله وحده والصلة والسلام علی من لاذی بعده واله وصحبه المکرمین عنده وسائر  
المسلمین المتبیین سعدہ فاضل ..... سائل بلکہ مجیب سلیمان القریب الجیب کا سوال خود ہی جواب حق وصواب ہے۔ فاما ذا بعد

الحق الا ضلال همیں زید و عمر کی شخصیت سے کام نہیں، احکام شرعیہ عام ہوتے ہیں جس سے یہ امر صادر ہوا کہ یہ حکم ہے کہ باشدے خاک یو دیا جنے باشدای عوام کے طور پر ہم کلام کریں گے اگر فال اس کے مصدق تو ضرور انہیں ان کے احکام کے اتحاق ہیں ورنہ جس پر صادق وہ مستحق ولائق

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل وحسبنا الله ونعم الوكيل .

(۱) یزید پلید علیہ ما یستحق من العزیز الجید قطعاً یقیناً بِجَمَاعِ الْأَلْسُنْ فَاسْقَى فَاجْرُ وَجْرِي عَلَى الْكَبَارِ تَحْاَسْ قَدْرَ پَرَائِمِ الْأَلْسُنْ كَالْطِيقَ وَالْتَّفَاقَ ہے صرف اس کی تکفیر لعن میں اختلاف فرمایا امام بن حبیل رضی اللہ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں اور یہ تخصیص نام اس پر لعنت کرتے ہیں اور اس آیہ کریمہ سے اس پر سندالاتے ہیں۔

فهل عسيتم ان توفيتكم ان تفسدوا في الأرض وقطعوا ارحامكم او لشك

لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم

کیا قریب ہے کہ اگر والی ملک ہو تو زمین میں فساد کرو اور اپنے نبی رشتہ کاٹ دو یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی تو انہیں بہرا کرو یا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں لشک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلا لیا یا حریمین خود کو کعبہ مظلمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کیں۔ مسجد کریم میں گھوڑے باندھے ان کی لید اور پیش اب منبرا طہر پر پڑے تین دن مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) بے اذان و نماز رہی۔ مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابی و تابعین بے گناہ شہید کے کعبہ مظلمہ پر پتھر پھینکئے غلاف شریف پھاڑا اور جلایا۔ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پار سائیں تین شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے جگہ پارے کو تین دن بے آب و دانار کہ کرم بہرا ہیوں کے تفعیل ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گود کے پالے ہوئے تن ناز نیں پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے کہ تمام اشوان مبارک چور ہو گئے۔ سرانور کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا بوسہ گاہ تھا کاٹ کر تیر پر چڑھایا اور منزلوں پر پھرایا حرم محترم محدثات مخلوٰے رسالت قید کئے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہو گا۔ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فتن و فجور نہ جانے قرآن عظیم میں صراحتاً اس پر حکم اللہ فرمایا ہے امام احمد اور ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے ہیں اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ عن تکفیر سے احتیاط سکوت کی اس سے فتن و فجور متواتر ہیں۔ کفر متواتر نہیں اور بحال احتال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں نہ کہ تکفیر اور امثال و عیدات مشروط بعدم توبہ بقول تعالیٰ فسوف يلوم غيا الامن تاب او توبه تؤدم غرفة مقبول ہے اور اس کے عدم پر جزم نہیں اور یہی احتو و اسلم ہے مگر اس کے فتن و فجور سے الکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات الـ سنت کے خلاف ہے اور خلافات و بد دینی صاف ہے بلکہ انصاف آیہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں محبت سید عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا شہر ہوا۔

وسيعلمهم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون .

لشک نہیں کہ اس کا قائل ناصیح مردو دا اہل سنت کا عدو و عنود ہے ایسے گراہ بدوں سے مسئلہ مصالحہ کی شکایت بے سود ہے اس کی غایت اس قدر تو کہ اس نے قول صحیح کا خلاف کیا اور بلا وجہ شرعی دست کشی کر کے ایک مسلمان کا دل دکھایا مگر وہ تو ان کلمات ملعونہ سے حضرت بتول زہرا علی مرتضی اور خود حضور سید الانبیاء (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دل دکھا چکا ہے۔ اللہ واحد و قہار کو ایذ ادے چکا ہے۔

والذين يوذون رسول الله لهم عذاب اليهم مهینا . ان الذين يوذون الله ورسوله  
لعنهم الله في الدنيا والآخرة ودعولهم عذاب مهینا . والله تعالى اعلم .

(۲) سائل نے یہاں بھی قطعیات کے ساتھ قرآن کو ضم قطعی کے ہوتے قرینی یا ظنی کی کیا بحث کسی مدرسہ خلاف کی تو کری یا علم

میں کلام یا علمائے اہل سنت کو سب دو شام تفاصیل رکھتے ہیں جن کی اصلاح حاجت نہیں جب علماء حرمین طہین زادہ اللہ شرفا و تکریما نا نوتی و گنگوہی و تھانوی کی نسبت نام بنا متصرب فرمائے چکے ہیں کہ یہ سب کفار مرتدین ہیں اور یہ کہ

## من شک فی کفره و عذابه فقد کفر

جو ان کے کفر میں لٹک کرے وہ بھی کافرنہ کہ ان پیشووا اور سرتاج اہل سنت جانا بلاشبہ جو ایسا جانے ہرگز ہرگز صرف بدعتی و بدنهب نہیں قطعاً کافرو مرتد ہے اور ان تمام احادیث کا کہ سوال میں قاتوی الحرمین سے مقبول ہوئیں مورد ہے بلاشبہ اس سے دور بھاگنا اور اسے اپنے سے دور کرنا۔ اسے بعض اس کی اہانت اس کا رد فرض ہے اور تو قیر حرام و پدم اسلام۔ اسے سلام کرنا حرام۔ اس کے پاس پیٹھنا حرام اس کے ساتھ کھان پینا حرام اس کے ساتھ شادی بیاہت حرام اور قربت زنانے خالص اور بیمار پڑے تو اسے پوچھنے جانا حرام مرجائے تو اس کے جائزے میں شرکت اسے مسلمان کا سائل کفن دینا حرام۔ اس پر نماز جائزہ پڑھنا حرام بلکہ کفر اس کا جائزہ اپنے کندھوں پر اٹھانا اس کے جائزے کی مشایع حرام اسے مسلمانوں کے مقابر میں دفن کرنا حرام اس کی قبر پر کھرا ہونا حرام اسے کے لئے دعائے مغفرت یا ایصال ثواب حرام بلکہ کفر والی العیاذ بالله رب العلمین والله تعالیٰ اعلم۔

(۳) جواب سابق میں واضح ہو چکا کہ ان سے ہر قسم کا قطع تعلق فرض ہے اور جب وہ تمام علمائے حرمین شریفین کے متفق علیہ فتوی سے کافرو مرتد ہیں تو مسجد میں تو ان کا کیا حق حدیث ابن حبان مذکور قاتوی الحرمین میں ہے **لاتصلو امعهم** ان کے ساتھ نمازہ پڑھوان کے پیچھے تو نماز نہیں تو ان کے کھڑے ہونے سے صفع کے غیر نمازی حائل اور صفع قطع کرنا حرام نبی ﷺ فرماتے ہیں۔ **من قطع صفا قطعه الله** جو صفع قطع کرے اللہ اسے کاٹ دے تو جو مسلمانوں میں سر برآورده ہو جو ان کے منع پر بلا فتنہ و فسا و قدرت رکھتا ہو اس پر فرض ہے کہ انہیں مسجد میں آنے سے روکے اور مسلمانوں کی نماز خراب ہونے سے بچائے کہ مسلمانوں کو زمی و تغییر اور جونہ مانے اسے ہر جائز تھی و تشدید کے ساتھ ان کے میل جول سے باز رکھے کہ یہ نبی عن المکر تاقد رقدرت فرض قطعی ہے اور جونہ کرے وہ اسی مجرم کا اس کے عذاب میں ساتھی اصحاب سبت پر جب عذاب الہی نازل ہوا کہ **قلنا لهم كونوا قردة خاسدين** ۔ ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندروحتکارے ہوئے جو انہیں منع نہ کرتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ بندروپڑھے وہ بھی انہیں کی طرح کافرو مرتد ہے کہ **من شک فی کفره و عذابه فقد کفر** اس کے لئے حرام الحرمین کی وہ عبارتیں کہ سوال سوم میں مذکور ہوئیں کافی ہیں یوں بھی جوان احکام ضروریات اسلام یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں وہ بھی کافر ہے محیط و عالمگیری میں ہے۔

رجل قال آنها کہ علی آموزند داستان ها است کہ می آموزند او قال من علم  
حلیہ رامنکرم هذا کله کفر۔ والله تعالیٰ اعلم۔

(۵،۲) بلاشبہ علمائے اہل سنت پر اعانت سنت و اہانت بدعوت تحریراً و تقریراً بقدر قدرت فرض اہم و اعظم ہے اور ہر موزی کو مسجد سے نکالنا بشرط استطاعت واجب اگرچہ صرف زبان سے ایذا دیتا ہو خصوصاً وہ جس کی ایذا مسلمانوں میں بدنهبی پھیلانا اور اضلال اخوا ہوان کی سند میں وہی احادیث و روایات کہ سائل فاضل نے ذکر کیں کافی ہیں۔ والله تعالیٰ اعلم۔

فقیر احمد رضا قادری عفی عنہ

عبد المقصود احمد رضا خاں

محمدی آنی حنفی قادری

مفہیمان کرام وفقہاے ذوی الاحترام کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے۔ زید کہتا کہ جلد قربانی و تحقیق مسجد و مدرسہ سے صرف میں آسکتی ہے۔ بکرا قول ہے کہ کسی فقیر کو دی جائے۔ وہ خرچ کر سکتا ہے کیونکہ یہ صدقہ ہے اور صدقات کی تفصیل کلام الہی نے فرمادی۔ انما الصدقات للفقراء آلا یہ سورہ توبہ اور حکم باری تعالیٰ ہے

### فَإِن تنازعتمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ .

بہذا کلام ربانی کی طرف رجوع کی گئی نیز بکرا بیان ہے کہ بر تقدیر صحبت قول زید اس کا مأخذ کہاں ہے امید کہ مسئلہ کی توضیح مع انقل عبارت فرمائی جائے۔  
الجواب:

بے شک ہر منازعت میں اللہ و رسول ہی کی طرف رجوع لازم ہے مگر ہر ایک کو بلا واسطہ رجوع کی لیاقت کہاں نہیں دیکھتے۔ آیہ کریمہ صدقات سے زکوٰۃ مراد کہ اس میں ارشاد ہوتا ہے۔ **وَالْعَلَمِينَ عَلَيْهَا** اور بکرنے اسے قربانی و تحقیقہ کو شامل کر دیا۔ یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کے تو گوشت کی نسبت خود قرآن کریم میں ارشاد ہے **فَكُلُوا مِنْهَا** اس میں سے خود کھاؤ۔ اب کہاں رہی صدقات کی وہ تفصیل جو اس آیہ کریمہ میں بالحصر ارشاد ہوئی تھی کہ **انما الصدقات للفقراء آلا یہ بھی** نہ سمجھا کہ عموم بکرا قربانی کہتے ہیں نہ کہ صدقہ روہر کا تقرب اس میں روا۔ ولہذا امام علامہ زیلٹی نے شرح کنز الدقائق میں فرمایا۔ لانہ قربة کالتصدق ہاں ہم نے خاص مسئلہ قربانی میں اللہ عزوجل کی طرف رجوع کی تو اس کا ارشاد پایا **كُلُوا مِنْهَا وَاطعِمُوا الْبَاسِ** الفقیر خود اس میں سے کھاؤ اور ضرورت مند فقیر کو کھاؤ۔ اطعام کے لفظ نے بتایا کہ تصدیق ہی لازم نہیں اباحت بھی کافی ہے جو شخص ایک قربت ہے رسول اللہ ﷺ کی طرف رجوع کی تو حضور کا ارشاد پایا **فَكُلُوا وَادْخُرُوا وَتَجِرُوا** خود کھاؤ اور اٹھا کر کھو اور ثواب کا کام کا کام کرو رواہ ابو داؤد عن نبی شیعہ الہذا الی رضی اللہ عنہ مسجد و مدرسہ دینیہ اہل سنت میں دینا بھی ثواب کا کام میں اطعام اور اس و تجرو ا کے حکم میں داخل ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اس کی جلد اپنے صرف میں لانے کی نیت سے روپوں پیسوں کو یہچے توبے شک میں قیمت اس کے حق میں فضول ہوگی۔

### لأنه خرج من لتمويل كما نصوا عليه وفي حديث المستدرك من باع جلد الضحى

وہ قیمت نہ مسجد میں دے نہ مدرسہ میں دے **فَإِنَّ اللَّهَ طَيْبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيْبَ** بلکہ فقراء پر تصدق کرے کما ہو حکم المال الخبیث اور اگر نہ اپنے لئے بلکہ مدرسہ یا کسی فقیر کو دینے کے لئے روپوں پیسوں کو یہچے خود یہ خواہ متواتی مسجد ہو وکیل بہر صورت جائز ہے اور وہ مدام مدرسہ و مسجد میں صرف ہو سکتے ہیں کہ منوع تمول ہے نہ کہ تقرب

**وَقَدْمُوْ عَنِ التَّبِيِّنِ إِنَّهُ قَرْبَةٌ كَالْتَّصِدْقَةِ وَتَمَامُ تَحْقِيقِهِ فِي رِسَالَتِنَا الصَّافِيَةِ حَكْمُ جَلَوْدِ الاضْحِيَّةِ .**

فَقِيرِ اَحْمَدِ رَضَا قَادِرِي عَفْنِي عَنْهُ  
عَبْدُ الْمُصْطَفَى اَحْمَدِ رَضَا خَان  
مُحَمَّدِي سَنِي عَفْنِي قَادِرِي

استفتہ

علمائے دین متنین ووارثان حضور سید المرسلین ﷺ کا مسائل ذیل میں کیا ارشاد ہے۔ مبنو اتو جروا۔

(۱) ماہ صفر کے آخری چہار شنبہ کی نسبت جو یہ مشہور ہے کہ سید عالم ﷺ نے اس میں عضل صحت فرمایا اسی بناء پر تمام ہندوستان کے مسلمان اس دن کو روز عید سجحتہ اور عضل اور اٹھا رفرج و سرور کرتے ہیں۔ شرع مطہرہ اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں۔

(۲) قول جس طریقے سے گایا کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر وہ کوئی غزل وغیرہ حمد و نعمت یادحت بزرگان دین گائے اور کسی مزامیر کا استعمال نہ کریں تو اس کے سنتے میں کسی قسم کی تباہت شرعی ہے یا نہیں بیٹوا تو جروا۔

### المستفتى

ابوالمسکین ضياء الدین متوفی پیغمبر محبیت۔

### جواب سوال اول:

یہ محض بے اصل ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### جواب سوال دوم:

کوئی تباہت نہیں جبکہ قول نہ مرد ہونہ غورت نہ سنتے والی عورات نہ اور کسی طرف مکر حال ایام الہ موجود متوقع۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

عبدہ المذنب احمد رضا البر بیلوی

کتبہ

عن بنی همدان المصنفه ابنی الامی (علیهم السلام)

مسئلہ ۳۴:

از میر شاھ کبوہ دروازہ کارخانہ دروغہ یاداللہی صاحب مرسلا جناب مرزا غلام قادر بیگ صاحب ۱۲ رمضان المبارک ۷۱۳۰ھ  
کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کافی زمانہ کرتوں اور صدر یوں میں چاندی کے بوتام مع زنجیر لگاتے ہیں جائز ہے یا نہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ مولوی رشید احمد صاحب کے شاگرد فارغ التحصیل کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ (علیہ السلام) نے کرتے شریف میں قریب گریبان چاندی کا پتلہ لگایا ہے۔ اس قیاس پر بوتام مع زنجیر لگانا جائز ہے بیٹوا تو جروا۔

### الجواب:

چاندی کے صرف بوتام تاکنے میں حرج نہیں کہ کتب فقیہہ میں سونے کی گھنڈیوں کی اجازت مصرع فی الدر الخمار

## عن التمار خانية عن السیر الكبير لاباس بالذرار الديجاج و الذهب

اور گھنڈی اور بوتام ایک چیز ہے صرف صورت کا فرق ہے۔ اور جب جائز توجہ چاندی بدرجہ اولیٰ جائز نگری یہ چاندی کی زنجیریں کہ بوتا موں کے ساتھ لگائی جاتی ہیں سخت محل نظر ہیں کلمات انہ سے جب تک ان کے جواز کی دلیل واضح کر آفتاب روشن کی طرح ظاہر و جلی نہ ملے حکم و جواز دنیا محض جرات کہ چاندی سونے کے استعمال میں اصل حرمت ہے۔ شیخ محقق مولانا عبد الحق دہلوی قدس، سره افہم المدعات شرع مطہر نے حکم تحریر فرم کر ان کی ایجاد اصلاحی کو شکر کر دیا تو اب ان میں اصل حرمت ہو گئی کہ جب تک کسی خاص چیز کی رخصت شرع سے واضح و آشکارہ ہو ہرگز اجازت نہ دی جائے بلکہ مطلق تحریم کے تحت داخل رہے گی۔ **هذا وجہ وقول ثانیاً** ظاہر ہے کہ ان زنجیروں کے اس طرح لگانے سے تزین مقصود ہوتا ہے بلکہ تزین ہی مقصود ہوتا ہے اور ایسے ہی تزین کو جعلی کہتے ہیں اور علمائے تصریح فرماتے ہیں مرد کو سوانحی پیشی اور تکوار کے سامنے مثل پر تلے وغیرہ کے چاندی سے کسی طرح تزین جائز نہیں۔ تزین الابصار میں ہے۔ **لا یتجلى الرجل بذهب وفضة الابخاتم ومنطقة ومليلة سيف منها** غور الافکار میں ہے۔

### لودود آثار والرخصة منها في هذه الاشياء خاصة

روالخمار میں ہے

### وقل ولا یتخلى ای یتزین

اور جب یہ زنجیریں ان مستثنیات سے خارج ہیں تو لا جرم حکم نہیں میں داخل ہیں۔ **وقول ثانیاً** اس طرح پر لگانا اگر حقیقتہ زنجیر پہنانہ نہیں تو پہننے سے

مشابہ ہے اور محمرات میں شبہ مشیقین ہے فی رواحخار

التعليق يشبه اللبس محرم ذالك لما علم ان لشبهة في باب المحرمات ملحقه باليقين دملى

الاصاف سچھے تو یہ اس مسئلے کا گویہ صریح جزیہ ہے پھر علماء کی تصریح ریشم کے بارے میں ہے جس کا صرف پس لیعنی اوڑھنا اور جس امر میں ان کی مشاہدہ ہو منوع ہے باقی طرق استعمال

فی الشرح الملتقى للعلانى لاتکره الصلاة على سجادة من الابر الشيم لان الحرام هو  
الليس اما الانتفاع بسائر الجوه فليس بحرام كما هو في صلاة لجواهر واقره الفهستانى  
وغيره اه نقلد العلام تان محسينا الدرش واقراه.

پھر کیا گمان ہے اشیائی فضہ کے باب میں جن کا صور محدودہ کے سوا استعمال مطلقاً ناروا۔ رواحخار میں ہے۔

الذى كله ففته يحرم استعماله باى وجه كان كما قد مناه ولو بالا مس بالجسد والذا حرم ايقاد  
العود فى مجرة الفقة والساعة وقدرة التباك التى يوضع فيها الماء وان كان لا يمسها بيده ولا  
بفة لانه استعمال فيما صنعت له

لخ اور یہ خیال کہ اگر یہاں چار انگل کے عرض تک چاندی کا کام ہوتا جائز ہوتا کہ تابع تھا اسی کی جگہ زنجیریں ہیں انہیں بھی تابع تھہرا کر مباح مانا چاہیئے  
محض خیال محال ہے کام اور زنجیروں میں فرق بدیہی ہے۔ علمائے صحیح فرماتے ہیں کہ مذهب صحیح میں مرد کو ریشمی کمر بند ناروا ہے کہ وہ پاجامہ کا تابع نہیں بلکہ  
مستقل جدا گانہ چیز ہے در حقیقت میں ہے

تکره التمكمة منه اى من الدبياج وهو الصحيح.

حاشیہ علامہ طحطاوی میں ہے۔ **هو الصحيح لانها مستقلة** جب کمر بندیا آنکہ پاجامہ کی غرض بے اس کے تمام نہیں ہوتی مستقل قرار پایا تو  
یہ زنجیریں جن کے کپڑے کو کچھ علاقہ نہیں نہ اس کی غرض ان پر موقوف کیونکہ تابع تھہرا سکتی ہیں اور اگر بالفرض کام کی جگہ لگایا جانا پتہ کوئی کام کے حکم میں  
کر دے تو لازم کو چاندی کے لگن توڑے۔ چنانکلی جھومروغیرہ زیور بھی جائز ہوں جبکہ وہ آستینوں گریبان ٹوپی وغیرہ میں کام کے قائم مقام ناٹک  
جا کیں بلکہ واجب کہ وہ زنجیریں اور یہ سب گہنے سونے کے بھی طالب ہوں کہ تابع قلیل ذہب وفضہ دونوں رو رواحخار میں ہے

يويد عدم الفرق ما من ابا حمزة الثوب المنسوخ من ذهب اربعه اصابع .

لخ غرض کوئی وجہ ان زنجیروں کے جواز کی نظر نہیں آتی اور جب تک کلمات ائمہ سے اجازت نہ ثابت حکم ممانعت ہے لم اینوار ہی وہ حدیث کہ حضور اقدس  
(صلی اللہ علیہ وسلم) نے قریب گریبان مبارک چاندی کا پتہ لگایا فقیر کو کسی کتاب سے یاد نہیں نہ عادات بلا واس کی مساعدت کریں کے گریبانوں میں چاندی کے  
پتہ لگائے جاتے ہوں۔ ہاں یہ بے شک حدیث میں آیا ہے کہ حضور پر نور سید یوم النشور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے جوہ پہننا جس کے گریبان اور چاکوں پر  
ریشم کی خیاطت تھی۔

كما في حديث اسماء بنت الصديق رضى الله عنهمما اخرجه الائمه احمد في المسند  
البخاري في الادب المفرد و مسلم في صحيحه و ابو داود في السنن .

سواس کے جواز میں کے کلام ہے خواہ ریشم کا کام ہو یا گوث سناف جبکہ بولٹی یا لکڑا چار انگل عرض سے زائد نہ ہو پتہ کی حدیث کا پتہ دینام مسندی ہے کہ  
دیکھا جائے کہ وہ کس مرتبے کی حدیث ہے اور اس کا مطلب کیا اور اس مدعی کو تمکہ کہاں تک روا۔ سیدین علامین طحطاوی و شامی حوارش درویش فرمایا  
ہیں۔

الوره عن الشارع (صلی اللہ علیہ وسلم) انه ليس الحبة المكافحة بحرير ليس فيه ذكر فضه اولا ذهب والله  
سبحانه وتعالى اعلم وعلمہ جل مجده اتم واحکم .

## نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم ط

### حصہ سوٹم

سوال نمبر ۱ :

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ میں کہ قبر کی طرف نماز پڑھنا یا قبرستان میں قبروں کے برابر ہو جانے کے بعد مسجد بنانا یا ساختی کرنا یا پھول وغیرہ کے درخت لگانا کیسا ہے۔ بنو تو جروا؟

الجواب :

قبر پر نماز پڑھنا حرام ہے۔ قبر کی طرف نماز پڑھنا حرام اور مسلمان کی قبر پر قدم رکھنا حرام، قبروں پر مسجد بنانا یا زیارت وغیرہ کرنا حرام۔ روایتار میں ہے تکرہ اصلاحہ علیہ والیہ لور دوالنہی مسجد میں کوئی قبر آجائے تو اس کے چاروں طرف تھوڑی دیوار اگرچہ پاؤ گز رہو قائم کر کے اس پر چھٹت بنائیں کہ اب نماز یا پاؤں رکھنا قبر پر نہ ہو گا بلکہ اس چھٹت پر جس کے نیچے قبر ہے اور نماز قبر کی طرف نہ ہو گی اس کی دیوار کی طرف اور یہ جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

سوال نمبر ۲ :

ہمارے دینی پیشوامقتداء کیا فرماتے ہیں آب گرم کھملوں وغیرہ موزی چیزوں کو مارنا احرار بال النار ہے یا نہیں؟

الجواب :

اگر اور طریقہ دفع آسان ہو تو بہتر ورنہ گرم پانی ڈالنا مضاائقہ نہیں رکھتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

سوال نمبر ۳ :

ہمارے دینی پیشوامقتداء کیا حکم فرماتے ہیں کہ اس اسلامیہ میں کفار سے مدد چاہتا یا ان کی مدد کرنا درست ہے یا نہیں؟

الجواب :

کار دینی میں کفار سے مدد چاہنا منع ہے۔ رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں انا لانستعين بمسرك رہابے طلب مسلمانان ان کا مدد کرنا اگر اس میں وہ اپنا احسان سمجھے اور بطور استعمال دے تو یہ جائز نہیں اور اگر نیاز مندانہ بطور خدمت پیش کرے تو احتراز اولی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

سوال نمبر ۴ :

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرح متین اس مسئلے میں کہ ہندوستان کے اکثر شہروں میں مثل لکھنؤ پٹنہ عظیم آباد اکثر لوگ بعد فراغت بول کلوخ سے استغاثہ نہیں کرتے بلکہ صرف پانی پر کفایت کرتے ہیں آیا ان کا پاجامہ یا تہبند نہیں ہوتا ہے یا نہیں۔ بر قدر یہ نجاست نماز صحیح ہوتی ہے یا نہیں اور ایسے شخص کی امامت میں کوئی خرابی لازم آتی ہے یا نہیں اور بعض آدمیوں کا بیان ہے کہ پانی لینے سے قطرہ رک جاتا ہے کہ صرف ان کا خیال ہی خیال ہے یا واقعی امر ہے؟

الجواب :

کلوخ و آب میں جمع افضل ہے۔ نفس سنت ہر ایک سے ادا ہو جاتی ہے۔ سب سے اولی جماعت ہے۔ پھر تھا کلوخ۔ صرف پانی پر قناعت سے کپڑا نہیں ہوتا۔ نماز و امامت میں کوئی حرج نہیں۔ **والمسائل فی الحيلة و رد المختار و غيرهم** اپانی خصوصاً سرد اکثر امزوج میں بوجہ مکثیف ضرور انسداد قطرہ پر مھین ہوتا ہے۔ حدیث میں خروج مذی پر غسل مذاکیر کے حکم کو علماء نے اسی حکمت پر محول کیا ہے کما افادہ الامام الطحاوی فی شرح معانی الاثار اور مجال بر و دوت مشانہ نزول قطرہ کا اور موئید ہوتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و فقہائے عظام اس مسئلہ میں کہ آج کل جو عام رواج ہو رہا ہے کہ عورتیں اپنے نامہم کے سامنے ہونے میں کچھ باریک نہیں۔ جب نہیں کرتیں جیسے چپا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد بھائی یا دیور وغیرہ پلکہ جو دور کا ذرا بھی رشتہ قرابت رکھتا ہے یا سرے و دوپٹہ کھسکا ہے یا دوپٹہ ایسا باریک ہے کہ سر کے بال اور لگلی ہوئی چوٹی تک چکتی ہے یا کرتا ایسا باریک ہے کہ اندر کا جسم ظاہر ہوتا ہے اس کے گھروالے اور شوہر منع نہیں کرتے بلکہ اگر عورت نے شوہر کے کسی ادنیٰ قرابت دارے سے بھی پرده کیا تو اس پر شوہر وغیرہ کا سخت عتاب ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ایسے مردوں کو امام بناتا کیا اور ان کے شوہروں کے لئے شرعاً کیا حکم ہے؟

## الجواب:

عورت اگر کسی نامہم کے سامنے اس طرح آئے کہ اسکے بال اور گلے اور گردن یا پیٹھ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر ہو یا الباس ایسا باریک ہو کہ ان چیزوں سے کوئی حصہ چکے تو بالا جماع حرام اور ایسی وضع ولباس کی عادی عورتیں فاسقات ہیں اور ان کے شوہر اگر اس پر راضی ہوں یا حسب مقدرات مدد و بستہ کریں تو دیوث ہیں اور ایسیں کو امام بناتا گناہ اور اگر تمام بدن پاؤں تک موٹے کپڑے میں خوب چھپا ہوا ہے صرف منہ کی لکلی کھلی ہوئی ہے جس میں کوئی حصہ کان کا یا ٹھوڑی کے نیچے کا یا پیشانی کے بال کا ظاہر نہیں تو اب فتویٰ اس سے ممانعت پر ہے اور یہ امر شوہروں کی رضا سے ہو تو ان کی امامت سے بھی احتراز انصب کہ صدقۃۃہم واجبات شرعیہ سے ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## سوال نمبر 6:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ زید عمر قریب ہفتاد سال مریض رعشہ کے تہا سفر کے قابل نہیں بھی اپنے زمانہ صحبت و شباب میں اتنے ماں کا ماں کہ اس پر حج فرض ہوتا۔ اب کہ حالت یہ ہے اس نے مکان وغیرہ بیچا اور پانچ سورو پے اس کے پاس ہو گئے یہی اس کا کل سرمایہ ہے بوجہ ضعف و امراض دوسرے شہر میں جہاں اس کے اعزہ میں سکونت کرنا اور وہاں مکان خریدنا چاہتا ہے اس صورت میں اس پر خود حج کرنا یا روپیہ دے کر حج بدل کروانا واجب ہے یا نہیں بنوار و جروا۔

## الجواب:

صورت مستقرہ میں زید پر حج بدل اصلاً واجب نہیں۔ ہمارے امام عظیم رضی اللہ عنہ کے مذهب مسحی ظاہر الروایہ میں تو ایسی تدریسی جو اس سفر مبارک کے قابل ہر شرط و جواب ہے کہ بغیر اس کے حج سرے سے واجب نہیں ہوتا اور صاحبین رضی اللہ عنہ کے مذهب مسحی میں اگرچہ شرط و جوب ادا ہے کہ وہ نہ ہو تو خود جانا لازم نہیں۔ مگر اپنے عوض اپنے روپیہ سے اپنی حیات میں یا بعد موت حج کرنا واجب ہے مگر مال جملہ حاجات سے فاضل جانے آنے کے قابل بااتفاق فقہائے کرام شرط و جوب ہے کہ بے اس کے حج واجب ہی نہیں ہوتا اور مکان حاجات اصلیہ سے ہے اس کی خریداری یا بنا نے کے بعد اس زمانہ میں کہاب مصارف حج بہت قریب گزرے ہوئے۔ زمانہ سے تقریباً دو چند ہو گئے۔ اتنا پچھا کہ اس کے حج کے جانے آنے کے بھی تمام مصارف ہوں اور زید کے لئے اس حالت میں کہ نہ اور مال اور نہ کسب پر قدرت کچھ ذریعہ معاش نہیں بھی رہے۔ معقول نہیں لہذا بااتفاق وعی التزل صاحب مذهب رضی اللہ عنہ کے مذهب مسحی و مریج پر بلاشبہ حج کرنا بھی واجب نہیں۔ خود حج کو جانا تو بالا جماع اصول صورت و جوب نہیں رکھتا۔ لا يكفل

الله نفساً الا وسعها تنویر الابصار و دریافتاریں ہے

الحج فرض على مسلم مكلف صحيح البدن اى سالم عن الافات المانعة عن القيام بما لا بد منه  
في السهو فلا يجب على مقعد و مفلوج شيخ كبير لا يثبت على اسحرامة بنفسه واعمى وان  
و جد قائد الابانفسهم والا بالنيابة في ظاهر المذهب عن الامام وهو رواية وجوب الاججاج عليهم  
و ظاهر التحفة احتیار قولهم لو كذا الا سبیحابی وقواه في الفتح و حکوم في اللبات اختلاف  
التصحیح و شرحه امن مشی على الاول في النهاية وقال في البحر العمیق انه المذهب الصحيح  
وان الشانی محمد قاضی خان في شرح الجامع و اختاره کثیر من المشائخ (۵) یصیر ذی زادور  
احلة فضلا عملا بدمنه ومنه المسکن و مرمتہ و کذالو کان عنده مالو اشتري به مسکنار خاد  
مالا مسکنار خاد مالا بدمنه ومنه المسکن و مرمتہ و کذالو کان عنده مالو اشتري به مسکنار خاد

یقی بعده ما یکفى للحج لا یلزمہ خلا صہ وحرر فی النہر انہ یشتہ طبقاء راس مال لحرفة ان  
احتاجت لذلک والا لا اور اس المال یختلف باختلاف الناس بحرف المراد ہایمکنہ الا  
کستاب به قدر کفایة و کفایة عیالہ (ملقطات والله تعالیٰ اعلم).

#### سوال نمبر ۷:

کیا فرماتے ہیں علمائے خلقائیں اہل سنت و جماعت کثیر اللہ تعالیٰ نصرہم و اہداہم مسئلہ ذیل میں کہ زید بن محمد اللہ تعالیٰ کسی ضرورت دینی کا انکار بلکہ ایسے شخص کو بھی کافر و مرتد جانتا ہے باوجود اس کے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اگرچہ افضل الناس بعد الاعیا ہیں لیکن بحکم مامن عام الا و قد خص منہ بعض اس ناس سے حسین رضی اللہ عنہ مستثنی ہیں کیونکہ حسین کریمین رضی اللہ عنہما بوجہ جزیت کریمہ ایک افضل جزوی حضرات عالیہ خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر رکھتے کلی سبطین کو دیا اور افضل البشر بعد الاعیا ابو بکر الصدیق کو عام مخصوص منہ بعض تھہرا یا اور انہیں امیر المؤمنین مولیٰ علی سے افضل کہا یہ سب باطل اور خلاف اہل سنت ہے اس عقیدہ سے توبہ فرض ہے ورنہ وہ سئی نہیں اور اس کی دلیل محض مردو دل اگر جزیت افضلیت مرتبہ عند اللہ ہوا لازم کہ آج کل کے بھی دارے میر صاحب اگرچہ کیسے ہی فتن و فنور میں جتنا ہوں اللہ عزوجل کے نزدیک امیر المؤمنین مولیٰ علی سے افضل و اعلیٰ ہوں اور یہ نہ کہے مگر جاہل اجہل مجنون یا ضال مضل مفتون قال اللہ تعالیٰ عزوجل قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون تم فرمادو کیا برہو جائیں گے عالم اور بے علم اور فرماتا ہے۔ یرفع اللہ الذین امتو امنکم والذین اوتو العلم درجات اللہ بلند فرمائے گا تم میں سے مؤمنوں اور بالخصوص عالموں کے درجے تو عند اللہ افضل علم افضل نسب سے اشرف و اعظم ہے۔ یہ صاحب کہ عالم نہ ہوں اگرچہ صالح ہوں آج کل کے عالم سنی صحیح العقیدہ کے مرتبہ کو شرعاً نہیں چھپتے نہ کہ ائمہ نہ کہ اصحاب نہ کہ مولیٰ علی نہ کہ صدیق و فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تنویر الابصار و دریختار میں ہے۔

للشارب للعالم ان يتقدم على الشیخ الجاہل ولو قرشياء قال تعالیٰ والذین اوتوا  
العلم درجات فالرافع هو الله فمن يضعه يضعه الله في جهنم

فتاویٰ خیریہ امام خیر الدین رملی میں ہے

كونه قريشيا لا نبيح له التقدم على ذى العلم مع جهله از كتب العلم طافحة بتقدم العالم على  
القرشى ولم یفترق سبحبته وتعالیٰ بين القرشى الغير العالم والدليل على ذلک تقدم الصهرين  
على الختنين وان كان الختن اقرب نسبا منهم .

ولہذا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے سرداری حضرات سبطین کریمین کو حظ قیم کے لئے جوانان اہل جنت سے خاص فرمایا۔ الحسن والحسین  
سید الشباب اهل الجنة کہ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کو شامل نہ ہو اور متعدد صحیح حدیثوں میں اسی کے تہمہ میں فرمایا ایسا ہوا خیر ممکن  
حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے افضل ہے

رواه ابن ماجہ والحاکم عن ابن عمر والطبرانی فیالکبیر عن قرة بن ایاس بسنده و عن مالک بن  
الحیویرث والحاکم وصححه عن ابن مسعود رضی اللہ عنہم

اور ارشاد ہوا

ابوبکر و عمر خیرا العالین والاخرين و خير اهل السموات و خير  
اہل الارمنين الالتبين والمرسلين .....

ابو بکر و عرب اگلوں پچھلوں سے افضل ہیں۔ سوا ہمیاً مسلمین کے علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ اعلم۔

#### سوال نمبر ۸:

کیا فرماتے ہیں علمائے احتجاف الہ سنت کہ زید نعوذ باللہ منہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بر جانتا ہے سیدنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ اُنکی تقدیم کرتا ہے نیز مجتہدین شیعہ حال کو تعظیم دیتا ہے اور ان سے مصافحت کر کے چوتھا ہے نیز عمر و سے اپنی شان میں یہ اشعار سن کر پکجھنا کہا۔

تم محمد تم علی تم فاطمہ تم نوریں  
انجناۓ اہمیاً اولیاء تم ہی تو ہو

طور پر موئی حرب میں مصطفیٰ تم ہی تو ہو

تو زید کا فرور مرتد ہے یا نہیں۔ بنیو اتو جروا۔

#### الجواب:

ضرور کافر و مرتد ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### سوال نمبر ۹:

کیا فرماتے ہیں علمائے اہل سنت کثیر ہم اللہ مسئلہ میں کہ امام نے آیت یا ایہا الذین امنوا اصلوا علیہ وسلمو تسلیماً - پڑھی۔ مقتدی کے منہ سے عادة صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا۔ نماز فاسد ہوئی یا نہیں اور **اللهم صلی** منہ سے لکلا جانے سے درود شریف تمام کرنا فرض ہے یا نہیں۔ فاسد قلب کی قضا میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ بنیو اتو جروا؟

#### الجواب:

اس میں جواب امام مقصود نہیں ہوتا بلکہ انتقال امر اہمی لہذا فساد نہیں۔ درود شریف ناقص چھوڑنا کسی عذر کے باعث تو اس کا اتمام لازم نہیں۔ وہ نوافل محدود ہیں جو شروع سے واجب ہو جاتے ہیں درحقیقہ میں سات کہے۔ ہر قلب کا یہ حکم نہیں ہاں معاذ اللہ تصدأ ناقص چھوڑنا مرض قلب سے ہو گا یہ لازم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### سوال نمبر ۱۰ نمبر ۱۵:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرح متن مسائل ذیل میں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا۔ اس کے وارث دوڑ کے ایک لڑکی بہام غلام رسول غلام علی، فاقطہ تھے۔ بعد غلام رسول غائب ہو گئے۔ ان کے لئے عیحدہ ان کا حصہ ان کے والد کی ملک سے نہیں کیا گیا۔ پھر غلام علی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے دوڑ کے ایک لڑکی ایک بی بی چھوڑی جن کے نام بومیاں، غلام نبی، بی بی، اور عائشہ ہیں بچے نابالغ تھے ان کی والدہ عائشہ نے ان کی پرورش کی اور ملکیت نقدا پنے شوہر کا تھا کسی کو معلوم نہ ہونے دیا اور مکان زیور وغیرہ سب مع غلام رسول صاحب کے حصہ کے اپنے قبضہ میں رکھا جب بچے بڑے ہوئے تو پہلے بی بی بی کو شادی کر دی۔ شادی میں ان کو مکان، زیور وغیرہ دیا اور روانہ کیا۔ پھر دوڑ کوں کی شادی کر دیں اور بقیہ مکانات وغیرہ ان کے لئے رکھا بعض مکانات وغیرہ کی انہوں نے آپس میں تقسیم کر لی۔ ان کے انتقال کے بعد اس کی اولادوں نے آپس میں پوری تقسیم کر لی اور جو مکان زیور وغیرہ اپنے حصہ میں آیا وہ بعض نے فروخت بھی کر دیا تو اب دریافت طلب امور ہیں کہ:

نمبر ۱: غلام علی صاحب کی اولاد کی اولاد کو جو حصہ کہ ان کو ملا ہے۔ ان میں سے غلام رسول کے لئے امانت لکالنا چاہیے یا نہیں۔ غلام رسول صاحب کے دوڑ کوں کا پہلے چلا تھا پھر وہ غائب ہو گئے وہ ان کے وارث قرار دیئے جائیں گے یا نہیں اگر قرار دیئے جائیں گے تو کب اور کب تک اگر ان کے لئے امانت رکھا جانے کا حکم ہے تو جو حصہ مکان زیور وغیرہ کہ ان کو ملتا مکان زیور ہی اندازہ کر کے ان کے لئے الگ کر کے امانت رکھا جائے یا اس کے دام۔ اس کے واسطے کہ بعضوں نے مکان، زیور وغیرہ تقسیم دیئے ہیں بعضوں کے پاس ہیں۔ غرض امانت رکھنے کا اگر حکم ہے تو کس طرح کب تک کس کے لئے رکھا جائے اور کون رکھے کتنا رکھے۔

نمبر ۲: عائشہ صاحبہ نے جو اپنی اولاد کی پرورش شادی وغیرہ میں خرچ کیا اور جو مکانات زیورات نقد وغیرہ وغیرہ ان کو شادی غیر شادی میں دیا۔ وہ ان کے ورثہ میں شمار ہو گایا یا نہیں۔

نمبر ۳: میت کے کسی وارث کو حصہ نہیں دیا گیا۔ وہ اپنی مرضی خوشی دوسرے وارثوں کے ساتھ رہا تو اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا یا باتی رہے گا۔ اس وارث کے انتقال کے بعد اس کے وارثوں کو اس کا حصہ طلب کرنے کا حق ہے یا نہیں۔

نمبر ۴: میت کے ایک وارث کو حصہ نہیں دیا گیا۔ دوسرے وارثوں نے لے لیا۔ پھر ان وارثوں کے وارثوں میں تقسیم ہو گیا تو کیا ان کے لئے جائز ہو گیا۔ وہ اس طرح خیال کر سکتے ہیں کہ ہم کو تو ہمارے مورثوں سے ملا ہے ہمارے لئے حلال ہے چاہے ان کے پاس کس طرح آیا ہو۔ صورت مذکورہ میں غلام علی صاحب کی اولاد کی اولاد کو جو ان کے پاس ہے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں۔

نمبر ۵: کیا میت کامال اسوکے راثوں کے جائز ہو جاتا ہے۔

نمبر ۶: غلام علی صاحب کی اولاد کی اولاد۔ ہر ایک اپنے طور پر علیحدہ جتنی قیمت کا اس کے حصہ زیور، گھروغیرہ ہے وہ قیمت امانت رکھے یا اپنے اوپر قرض بھجے اور جو اپنے پاس گھروغیرہ ہے استعمال کرے تو اس کے لئے جائز ہے۔

### الجواب:

جبکہ غلام کا مفہودہ ہونا انتقال مورث کے بعد ہے تو اس کے تمام متروکہ میں اپنے حصہ شرعیہ کا مالک ہو لیا۔ بعد ملک اس کا نائب ہونا اس کی ملک زائل نہیں کر سکتا اس کا حصہ مکان، زیور، گھر ہر شے سے محفوظ رہنا لازم ہے جو چیز باقی رہنے کی ہے جیسے مکان و زیور اس میں بعضہ اس کا حصہ محفوظ رہتا ہے ضروری ہے بھی کروام کرنے کے اجازت نہیں اس میں سے جو کچھ عائشہ یا اس کی اولاد یا جس نے تلف کر دیا۔ اس کا تادا ان اس پر لازم ہے اگر عذاب آختر سے نجات چاہیں اس کا معاوضہ پورا پورا اور جو کچھ مکان زیور وغیرہ باقی ہے اس کا حصہ سب غلام رسول کے لئے امانت رکھیں اس کے مفقود ہونے کے وقت اس کامال اس کی طرف سے جس کے قبضہ میں تھا وہی اس کا امین ہوا اور اگر اس نے کسی کو امین نہیں کیا تھا تو جماعت مسلمین شہراں دین دو دیانت و خدا ترسی کسی دیانتدار ہوشیار دیانت دار کو اس کا امین کریں۔ یہاں امانت اس وقت رہے کہ غلام رسول کی پیدائش کو ستر سال کامل گزر جائیں اور اس کا پہنچنے ملے اس وقت اس کی موت کا حکم دے دیا جائے اور اس وقت جو اس کے وارث شریٰ ہوں ان پر تقسیم کیا جائے اس کے بیٹوں کی مفہودی کا اس وقت لحاظ رکھا جائے گا۔

(۲) عائشہ نے جو اپنی نابالغ اولاد کی پرورش و شادی میں خرچ کیا۔ وہ اولاد کے حصوں سے محسوب ہو گا جبکہ خرچ بقدر معروف ہونہہ اسراف اور عائشہ اپنے شوہر کی طرف سے ان پر وصی ہو یعنی غلام علی انکی نگهداری اسے پر کر دیا گیا ہو اور اگر وصی نہ تھی یا خرچ زائد کیا تو وہ خود عائشہ کے حصہ پڑے گا۔

(۳) ترک کا حصہ نہ لینے سے ساقط نہیں ہوتا۔ اس کی اولاد و عویٰ کر سکتی ہے جبکہ جن کے قبضہ میں ہے انہیں اس کا متروکہ مورث ہونا تسلیم ہو۔

(۴) ترک میں جبکہ دوسرا کا حصہ یا اجنبی کامال ہو تو وہ وارثوں کے لئے حلال نہیں ہو سکتا، یہ خیال کہ ہمیں تو مورث سے ملا ہے اس کے پاس کیسا ہی ہو ہمارے لئے حلال ہے، غلط و باطل ہے غلام رسول کا حصہ استعمال کرنا اولاد غلام علی پر حرام ہے۔

(۵) میت کا وہ ناجائز مال وارثوں کے لئے جائز ہو سکتا ہے جس کا حال کچھ معلوم نہ ہونہہ یہ معلوم کہ فلاں چیز حرام ہے اور یہ کہ اتنی مقدار حرام تھی، نہ یہ کہ اس کا اصل مالک فلاں ہے ورنہ وہ شے اصل مقدار مال اصل مالک یا اس کے ورثہ یا فقراء مسلمین کو دینا فرض ہوتا ہے۔

(۶) کا جواب اپر آگیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

### سوال نمبر ۱۶:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین مسئلہ ذیل میں کہ ہندہ بہت محتاج ہے اور ویران بظاہر کوئی حیلہ رزق نہیں رکھتی۔ اس کا بھائی زید مزدوروی کر کے لاتا ہے اس میں دونوں گزر کر لیتے ہیں۔ ہندہ کے خرلنے بعد اپنی موت کے ایک مکان تقریباً ڈر ہو گز و سعت کا چھوڑا جواب ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ اس کے دو وارث ہوئے ہندہ کا شوہر اور دوسرا ہندہ کا جیٹھ۔ ہندہ کے جیٹھ نے اپنا حصہ اپنے لڑکے کو دے دیا۔ اب ہندہ کے شوہر کے حصہ پر قبضہ کر کے بینچا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں ہندہ کا کیا حق ہے۔ میں ہندہ کا کیا حق اس واسطے میرے بھائی کو غائب ہوئے تقریباً تیس برس ہو گئے غالباً مر گیا ہو گا کیونکہ پانچ چھوڑ برس سے اس کی خبر نہیں اور قانون کہتا ہے کہ تین برس بعد وعویٰ مہر نہیں چل سکتا اور وکیل کہتا ہے کہ وعویٰ مہر کرو تم کو ملے گا اور وکیل یہ رائے دیتا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ چلے گا اس صورت میں کہ ہندہ کہے کہ میرے شوہر کے مرنے کی خبر تو نے آج دی ہے میں ابھی تک اپنے آپ کو یہو نہیں جانتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ زندہ ہے اگر تم کہتے ہو کہ وہ مر گیا تو آج سے تین برس تک مجھے مہر طلب کرنے کا مجھ کو حق ہے۔ ہندہ کے عزیزوں میں سے کسی کو مہر کی تعداد یاد نہیں اس نکاح کو کم و بیش چالیس برس ہو گئے ہوں گے۔ ہندہ کو خوب یاد ہے کہ میرا مہر دوسرو پے کا تھا اور میں سنتی ہوں کہ میری والدہ اور پچھوپھی کا مہر بھی دوسرو پے کا تھا اور اب میری بھتیجوں اور میرے بھائیوں کا بھی دوسرو پے مہر ہے۔ اب ہندہ کے اقوال پر اس کا حق شرعی دلانے کے واسطے اہل محلہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مہر دوسرو پے تھا ان کے لئے کچھری میں اس کا واقعی حق دلانے کے واسطے یہ کہہ دینا جائز ہو گا یا نہیں کہ ہاں دوسرو پے تھا ان لوگوں کی گواہی پر اگر اس کا حق انشاء اللہ ملے گا تو اس کا رہنا اور موت پاسانی ہو جائے گی۔ کسی وقت ہندہ کے جیٹھ نے ہندہ کی خبر لی کر وہ کس حالت میں ہے۔ بینوا تو جرو۔

### الجواب:

ہندہ جبکہ دوسرو پے مہر بیان کرتی ہے اور اس وقت کا گواہ کوئی نہیں اور ثابت ہو کہ یہ اس کا خاندانی مہر مل ہے تو وہ ضرور دوسرو پے دلائی جائے گی۔ گواہوں کی گواہی یہ جائز ہو گی کہ ہمارے سامنے دوسرو پے مہر باندھا تھا بلکہ یہ گواہی دیں کہ اس کا مہر مل دوسرو پے ہے یہی گواہی اس کی ڈگری کے لئے کافی ہو گی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرح میں اس مسئلہ میں کہ زید نے اپنی زوجہ ہندہ کو طلاق دے دی۔ بچہ اس کی بد چلنی کے ہندہ طلاق کے بعد عمر وہ کے پاس رہی اور ہندہ کو عمر وہ حمل رہ گیا۔ عمر نے ہندہ کے ساتھ بعد گزرنے ایام عدت نکاح اور بعد نکاح عمر وہ کو اس بات کا علم ہوا کہ ہندہ کو مجھ سے حمل ہے آیا یہ نکاح جائز ہے اور یہ کہ بعد طلاق نکاح کے واسطے عدت کا زمانہ کیا ہے۔ میتو تو جروا؟

## الجواب:

طلاق کی عدت حیض والی کے لئے تین حیض ہیں کہ بعد طلاق شروع ہو کر ختم ہو جائیں اور جسے ابھی حیض نہ آیا یا حیض کی عمر سے گز رچکی اس کے لئے تین میتے اور حمل والی کے لئے وضع حمل۔ یہ احکام قرآن عظیم میں منصوص ہیں اور عمر وہ جو قل عدت اس سے تعلق کیا اور حسب بیان سائل اس سے حمل رہ گیا تو کون سے ایام عدت تھے جو اسے گزارے۔ اس کی عدت تین حیض تھے اور حاملہ کو حیض آتا ہیں اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے اور ابھی وضع حمل ہو انہیں۔ یہ نکاح فاسد ہوا۔ اس پر فرض ہے کہ عورت کو فوراً جدا کر دے اور انتظار کیا جائے اگر یہ پچھے طلاق شوہر سے دو برس کے اندر پیدا ہو تو شوہر کا حق ہے اور اب وہ عدت سے نکلی اب اس سے نکاح ہو سکتا ہے اور دو برس کے بعد پیدا ہو تو شوہر کا نہیں اور اب نکاح بہر حال جائز ہو گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## سوال نمبر ۱۸:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ یہاں شام پنجشنبہ کو ابر صحیط تھاروا یت نہ ہوئی مگر دوسرے دن چاند قدرے بڑا دیکھ کر بعض لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید کل کا ہو۔ جنتزی میں اگرچہ عید اتوار کی لکھی مگر ساتھی روایت کو مٹکوک لکھ دیا۔ ایسی صورت میں شرعاً عید دو شنبہ کی ہوئی چاہیئے یا اتوار کی اور اگر عید و قربانی اتوار کو کر لیں تو درست ہو گی یا نہیں؟ میتو تو جروا۔

## الجواب:

شرح مطہر میں روایت کا اعتبار ہے کہ خود نہیں دیکھا جائے یا دوسرے شہر پر شرعی شہادتیں گز رہیں۔ حدیث میں فرمایا ان الله امده لرویته خطیاً تماریاً عقلی قیاسوں یا دوسرے شہر کی حکایتوں کا شرع میں اصلاً اعتبار نہیں مثلاً کچھ لوگ آئے اور بیان کیا کہ وہاں فلاں دن کی عید ہے یا وہاں روایت ہوئی اس پر اصلاً لحاظ نہیں جب تک گوہاں عادل شرعی خود اپنادیکھنا بیان نہ کریں۔ درختار میں ہے لا اشهد و ابر و یتہ غیر هم لانه حکایۃ جنتزیوں کا مٹکوک لکھنا تو آپ ہی مٹکوک وہیں ہے اگر وہ یقینی لکھیں جب بھی شرع میں اس کا اعتبار نہیں۔ درختار میں ہے لا عبرة بقول الموقتین ولو عد دلاعلی المذهب چاند کے بڑے ہونے پر بھی لحاظ نا جائز ہے۔ حدیث میں فرمایا

## من اقتراب الساعة انتفاج الاهلة رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه

دوسری حدیث میں ہے

من اقتراب الساعة ان يرى الهلال قبلًا فيقال هو الميلتين رواه في  
الاوسط عن انس رضي الله عنه

دونوں حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ قرب قیامت کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ ہلال پھول ہوائے لوگ کہیں کل کا ہے۔ پس ایسی صورت میں اتوار کی عید قربانی بالکل باطل و خلاف شرع ہے۔ عید کوئی دینیوی تقریب نہیں حکم الہی ہے جب تک مطابق شرع نہ ہو محض بیار بلکہ گناہ ہے۔ بالفرض اگر چاند پنجشنبہ کو ہی ہو گیا جب بھی دو شنبہ کی نماز و قربانی بلاشبھ ہے اور جمعہ کو ہو تو ایک شنبہ کی نماز و قربانی محض باطل تو ایسے امر میں پڑنا شرع و عقل دونوں کے خلاف ہے مسلمان بھائیوں کو چاہیئے کہ شرع کے کام شرع کے طور پر کریں۔ اپنے خیالات کو دھل نہ دیں۔ وبالله التوفيق۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## سوال نمبر ۱۹:

نماز میں سرکار دعو عالم (عَلَيْهِ السَّلَامُ) کی جتاب میں خود عرض کرتا یا جواب حضور عرض کرنا مفسد نماز ہے یا نہیں؟

## الجواب:

قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيرو الله ولرسول اذا دعاكم ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور اقدس (عَلَيْهِ السَّلَامُ) نے انہیں ندا فرمائی۔ انہوں نے بعد فراغ نماز آکر عرض کیا۔ فرمایا کیا تم نے نہ سنا کہ اللہ عز وجل نے فرمایا اور یہی آیہ کریمہ تلاوت فرمائی۔ ذوالیلین کے قصہ میں ہے کہ حضور نے صحابہ سے اور صحابہ نے حضور سے بتائیں کہسچھیت ہو گیا باقی ماندہ نماز میں اصحاب ادا فرمائی۔ وہ کلام

مطلب نماز نہ ہو تمام متون فقہ میں تصریح ہے کہ کسی کو سلام اگرچہ کہوا ہو مفسد نماز ہے اور یہاں حکم ہے کہ وسط نماز میں عرض کریں۔

#### سوال نمبر ۴۰:

خاص صاحبین کے نزدیک جائز ہے امام کے نزدیک جس کا باتا ریشم ہوتا ناسوت ہو مجاہدین کو جائز ہے۔ غیر کوئی، ریشمی کپڑا یہ بھی ہوا کہ کپڑا کوئی ہوتا گھربانے سے درجتاری میں ہے۔

یحل لیس ماسداه ابرشیم ولحمة غیرہ لان الشوب انما يصیر ثوبا بالحمته و هل عسکه فی المرب  
فقط لوضعیقاً يحصل به اتقاء العدو واما حالصہ فیکرہ فیها عنده خلافاً لهم ملتقى .

#### سوال نمبر ۴۱:

تعویذ نجaro غیرہ کے لئے اس شکل کا بنایا کر بائیں پھر میں باندھتے ہیں اور پہلے روز صبح سوریے ایک جوتا اس کھول کر مارتے ہیں اگر صحت ہو گئی۔  
فیہا ورنہ دوسرے روز دو جوتے مارتے ہیں صحت ہوئی تو خیرورنہ تیسرا روز تین  
ابنیس، فرعون، ہامان، قارون، نمرود کے نام جوتے مارتے ہیں وعلیٰ ہذا القیاس اور اس میں ہوتے ہیں شکل یہ ہے آیا یہ جائز ہے؟

#### الجواب:

یہ ناجائز و گناہ ہے کہ حروف کی توزیں ہے عالمگیری میں ہے۔

اذ كتب اسم فرعون او كتب أبو جهل على عرض يكره ان يرموا اليه لان  
ذلك الحروف الحرامه كذافي السراجيه .

نماوی امام قاضی خان میں ہے

حکی ان بعض الائمه رای شبانا یرمون الی الهدف و کتب علی الهدف ابو جهل فنہا هم عن  
ذلك ثم مریبهم و فصلو الحروف فنہاهم ايضا و قال مانہیتکم فی الابتداء لا جل  
الكلمه و انما نہیتکم لا جل الحروف .

#### سوال نمبر ۴۲:

کیا غیر مقلدین کے مسائل ایسے بھی ہیں جو مذاہب اربعہ اہل سنت میں سے کسی کے نزدیک جائز ہوں؟

#### الجواب:

بہت مسائل ہیں جیسے ایک جلسہ میں تین طلاقوں سے ایک ہی طلاق پڑتا۔ وضو میں سر کی جگہ پگڑی کا سع کرنا ان کی کتاب تحفۃ المؤمنین میں جو ان کا پیشواؤنڈر حسین کے شاگرد نے بعد نظر ہٹانی کے مطیع نوکھور میں دوبارہ چھپوائی اس کے صفحے اپر صاف لکھا کہ پھوپھی کے ساتھ نکاح درست ہے۔ ان کے یہاں خون اور شراب اور سور کی چربی ناپاک نہیں ہے جیسا کہ ان کتاب روضہ ندب صفحہ ۱۲ اور غیرہ سے ثابت ہے۔

#### سوال نمبر ۴۳:

قياس امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے خلاف و باطل کہنے والے کا کیا حکم ہے؟

#### الجواب:

نماوی عالمگیری وغیرہ میں ہے جو شخص امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے قیاس کو حق نہ مانے کافر ہے۔

#### سوال نمبر ۴۴:

حضرت شیخین رضی اللہ عنہما کو جو گالی دینے والا ہے اس کے بارے میں اکابر علمائے اہل سنت کی کیا رائے ہے؟

## الجواب:

جو شخص ابوکر صدیق یا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو برا کہے بہت اگر نے اسے کافر کہا ہے اور اس قدر پر تو اجماع ہے کہ ایسا شخص بد دین ہے۔ دیکھو تو نور الابصار و درمختار و فتاوی عالمگیری و فتاوی خلاصہ و فتح القدر و اشیاء بحر الرائق و فتنیۃ و عقوب الدربیہ وغیرہ۔

## سوال نمبر ۴۵:

حنفیوں کی نماز شافع المذهب کے پیچے جائز ہے یا نہیں؟

## الجواب:

نہیں جائز ہے اس لئے کہ غیر مقلدین اہل اہوا سے ہیں اور اہل اہوا کے پیچے نماز جائز نہیں ہے۔ فتح القدر شرع ہدایہ میں ہے کہ امام محمد، امام ابو حنیفہ و امام ابو یوسف رضی اللہ عنہم سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل اہوا کے پیچے نماز ناجائز ہے اور ان کے نہیں مسئلے اس قدر مختلف ہیں کہ ہمارے مذہب میں ان کی طہارت صحیح ہوتی ہے نہ نماز کہ وہ مردار اور سور کی چربی تک کونا پاک نہیں جانتے اور کثورہ بھرپانی میں چھماشے پیشتاب پڑ جائے تو اسے پاک سمجھتے ہیں۔ ان کا مذہب ہے کہ جب تک اتنی نجاست نہ پڑے کہ پانی کا رنگ مزہ بودل جائے جب تک پانی پاک رہے گا۔ دیکھو غیر مقلدین کی کتاب فتح الغیث صفحہ ۵ اور طریقہ محمد یہ صفحہ ۶، ۷۔

## سوال نمبر ۴۶:

غیر مقلدین کی بدعت ازوم تک پہنچی ہے یا نہیں؟

## الجواب:

بہت وجہ سے پہنچتی ہے۔ تین وجہیں یہ ہیں کہ غیر مقلدین اجماع اور قیاس اور تقليد کے مگر ہیں جیسا کہ ان کتابوں سے ظاہر ہے اور ان کے پیشوanonاب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ قیاس باطل اور اجماع بے اثر آمد اور ہمارے تصریح فرماتے ہیں کہ اجماع و قیاس اور تقليد ضروریات دین سے ہیں دیکھو کشف الاسرار امام عبدالعزیز بنخواری مطبع قطبظیہ اور فصول البدائع استنبول اور موافق اور شرح موافق اور فوائج وغیرہ اور ضروریات دین کا مذکور مسلمان نہیں ہے۔ دیکھو تو نور الابصار اور درمختار اور شرح فرقہ اکبر اور اعلام امام ابن حجر اور بحر الرائق اور روالفخر وغیرہ۔ چوتھے یہ کہ ان کے اسماعیل دہلوی نے ایضاً الحق میں اللہ تعالیٰ کو مکان و جہت سے پاک ماننے کے عقیدہ و دینی کو بدعت حقیقتیاً ہے اور یہ کلمہ کفر ہے۔ دیکھو تو قاضی خان و فتاوی عالمگیری وغیرہ۔ پانچوں ان کے امام مذکور نے تقویۃ الایمان میں اعیاً علیہم السلام کی شان میں سخت گستاخی کے لئے لکھے اور یہ کفر ہے دیکھو شفاعة شریف قاضی عیاض اور سیف المصلوی امام سبکی وغیرہ چھٹی اس تقویۃ الایمان میں ہمارے نبی ﷺ کی نسبت مرکمی میں مل جانا لکھا ہے اور اماموں نے تصریح فرمائی ہے کہ یہ کفر ہے۔ دیکھو شرح مواہب علامہ زرقانی مطبع مصر، ساتویں یہ سارافرقہ تقليد کہ شرک اور مسلمان مقلدین کو مشرک کہتا ہے اور یہ کلمہ کفر ہے دیکھو درمختار و دروغ و بجمع الانہر و عالمگیری و شرح فرقہ اکبر وغیرہ۔

## سوال نمبر ۴۷:

بدعتی اور فاسقی کی امت مکروہ و منوع ہے یا نہیں؟

## الجواب:

ہاں منوع و مکروہ ہے۔ دیکھو طحاوی درمختار اور غذیۃ اور صغیری اور فتح المعنین۔

## سوال نمبر ۴۸:

امام بنناوی تقطیم ہے یا نہیں اور مبتدع کی دینی تقطیم حرام ہے یا نہیں؟

## الجواب:

ہاں دیکھو درمختار اور فتح اور طحاوی اور زیلیقی وغیرہ اور مخلوٰۃ وغیرہ میں حدیث ہے کہ جو کسی بدعت والے کی تقطیم کرے۔ بے شک اس نے اسلام ڈھانے میں مددوی۔

## سوال نمبر ۴۹:

کیا مسجد میں سب مسلمانوں کا حق ہوتا ہے اور مسلمان کے کہتے ہیں؟

## الجواب:

مسلمان وہ ہے جو ہمارے نبی ﷺ کی امت ہو امت کے دو معنی ہیں امت دعوت جنہیں نبی ﷺ نے حق کی طرف بلا یا یوں تو تمام عالم ہمارے نبی ﷺ کی امت ہے اور امت اجابت وہ جنہوں نے بلا ناقبول کیا اور حق کو پورا ناما ناجب امت مطلق بولتے ہیں یہی دوسرے معنی مراد ہوتے ہیں اسی معنی پر جو مسلمان ہے اس کے لئے مسجد میں حق ہے مگر مبتدع اسی معنی میں داخل نہیں دیکھو تو ضمیح امام صدر ارشیدہ اور تلویح تفتازانی۔

تقریباً میں بحالت اختلاف قلت رائے کا اعتبار ہے یا کثرت کا؟

**الجواب:**

کثرت رائے کا اعتبار ہے یہاں تک کہ اگر جماعت کثیر جسے چاہے اس سے وہ افضل ہو جسے جماعت قلیل چاہے تو وہی مقرر ہو گا جسے جماعت کثیر نے چاہا و دیکھو عالمگیری وغیرہ۔

کیا شیعہ کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟

**الجواب:**

شیعہ میں جو صرف تفصیلی ہے کہ بہت صحابہ کو اچھا جانتا ہے۔ اہل سنت سے صرف اتنی مخالفت رکھتا ہے کہ مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کو حضرت شیخین سے افضل جانتا ہے اس کے پیچھے نماز بحکم فقہائے کرام محض باطل ہے۔ دیکھوار کان ارجمند اور جوتبرائی ہے اس کے پیچھے نماز بحکم فقہائے کرام محض باطل ہے۔ دیکھو خلاصہ اور عالمگیری وغیرہ اور جو ضروریات دین سے کسی بات کا منکر ہے وہ کسی کے نزدیک مسلمان نہیں اس کے پیچھے نماز بالیقین سب کے نزدیک باطل ہو گی۔

کسی شخص کا دعویٰ اتحاق امامت کا بانی مسجد یا اولاد بانی مسجد کے ہوتے ہوئے قابل اعتبار ہے یا باطل ہے اور اولاد بانی کو حق امام و موزن وغیرہ کا حاصل ہے یا اوروں کو؟

**الجواب:**

اوروں کا دعویٰ بانی مسجد یا اس کی اولاد کے آگے خلاف فقہ ہے دیکھو عالمگیری و قاضی خان اور امام موزن قائم کرنے کا حق بانی مسجد کو ہے اور وہ نہ ہو تو اس کی اولاد کو۔ دیکھو جموی شرح اشیاء۔

کیا ارشاد ہے علمائے ربانیں کثر اللہ تعالیٰ مشاہم و فضلاً ہے حقائیں خذل اللہ اعداءہم کا اس مسئلہ میں کہ زید فرقہ دیوبندیہ کا مرحلہ کفر ہونا تسلیم ہے لیکن کہتا ہے کہ اپنی زبان سے ان کو کافرنہ کھوں گا۔ دریافت کرنے پر کہتا ہے کہ فی الواقع دیوبندیوں نے کفر کا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو خود ہم پر کفر عائد ہوتا ہے کیونکہ کفر کی دو قسمیں ہیں کفر قویٰ کفر ضعیٰ۔ کفر قویٰ یہ کہ کسی نے ایسی اسٹ کی جس میں ضروریات دین کا انکار ہو جیسے دیوبندی نے تو ہیں اللہ اور رسول ﷺ کی بیکی اور کفر ضعیٰ یہ کہ ایسا فعل کیا جو انکار ضروریات دین پر امارت ہو جیسے زنا پاندھنا۔ بت کوچہ کرنا وغیرہ اب دیکھنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

**فلا و رب لا يوم منون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في  
أنفسهم حرجاً مما قضيت و يسلموا تسليماً**

تم کھا کفر مایا جاتا ہے کہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلاف کو موفق احادیث و آیات نہ طے کریں پھر کوئی رنجش یا کراہت کے انگریزی قوانین سے طے کرواتے ہیں ہم تو دیوبندیوں سے بدتر ہیں گویا نص قرآنی ہماری تکفیر فرمائی ہے جب ہمارا خود یہ حال ہے تو دوسروں کو کیونکر کافر کہیں۔ ہم تو خود ہی کفر میں بھلا ہیں۔ اتنی کلام۔ اب استھانا یہ ہے کہ زید کا کیا حکم ہے اور آیہ کریمہ کی صحیح تفسیر کیا ہے۔ میتو تو جروا۔

**الجواب:**

وجودی حق پر ہیں۔ وہ تکمیل ہیں کرتے بلکہ اپنا حق کر بے زور حکومت نہیں مل سکتا نکلو انہا چاہتے ہیں اور مدعا علیہ کہ حق پر ہے وہ تو مجبوری ہے کہ جواب دیں جنہ کرے تو یک طرفہ ذگری ہو جائے ان دونوں فریق پر اگر آیہ کریمہ وارد ہو تو ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا میں آج سے نہیں صد ہا سال سے مدعی مدعا علیہ وکیل گواہ سب کافر ہوں کہ عام سلطنتوں نے شرع مطہر سے جدا اپنے بہت سے قانون نکال لئے ہیں اور جو مدعی جھوٹا ہے وہ نا حق دوسرے کامال مثلاً چھیننا چاہتا ہے جس پر اپنی چب زبانی یا مقدمہ سازی یا جھوٹے گواہوں کے ذریعہ حکومت سے مدد لیتا ہے یہ باتیں گناہ ہیں مگر گناہ کو کفر کہنا خارجیوں کا

کافا قہ جانے تو ضرور کافر ہے اگلی آیہ کریمہ اس معنی کو خوب واضح فرماتی ہے۔

قال اللہ تعالیٰ و لو انَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُو النَّفْسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ .

اگر ہم انہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اسے نہ کرتے مگر ان میں تھوڑے ظاہر ہے کہ یہ نہ کرنا ان احکام کے نزدیک پر شاق ہونے ہی کے سبب ہے تو یہ ثابت ہوا کہ حکم کافی پر شاق ہوتا یہاں تک کہ اس کے سبب بجا آوری حکم سے باز رہتا کفر نہیں ورنہ معاذ اللہ یہ نہیں تھا ہر گاہ کہ صحابہ کرام بھی گفتگی کے مسلمان تھے کہ فرماتا ہے۔

ولَكُنَ اللَّهُ حَيْبُ الِّيْكُمُ الْإِيمَانُ وَزِينَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرْهُ الِّيْكُمُ الْكُفُرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعُصِيَانُ  
أَوْ لِنَلَكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةُ اللَّهِ عَلِيِّمٌ حَكِيمٌ

اے محبوب کے صحابیوں اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کرو یا اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دی اور کفر و بے حکمی و نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ یہی لوگ راہ پر ہیں۔ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت اور اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ دل کی محبت ہے کہ مدار ایمان اور کمال ایمان ہے اور وہ نفس کی ناگواری جس پر زیادہ ثواب اس عبادت کا ہے جو نفس امارہ پر زیادہ سبق ہو۔ بہر حال یہ شخص خود اپنے کفر کا مقر ہے۔ قطعاً کافر ہے قوائی عالمگیری میں ہے۔

مسلم قال انا ملحد يکفر ولو قال ما علمت انه کفر لا يعذر بهذا . واللہ تعالیٰ اعلم۔

سوال نمبر ۳۴:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرح میں اس مسئلہ میں کہ عورتوں کے واسطے زیارت قبور ہے یا نہیں؟

الجواب:

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں **لَعْنُ زُوَارَاتِ الْقُبُورِ** اور فرماتے ہیں ﷺ **كُنْتَ نَهِيَّتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ الْأَفْرُورِ** دھا ..... علماء کو اختلاف ہوا کہ آیا اس میں اجازت بعد ائمہ میں عورات بھی داخل ہو سکیں یا نہیں اصح یہ کہ داخل ہیں **كَمَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ** مگر جو انہیں منوع میں جیسے مساجد سے اگر تجدید یہ حزن مقصود ہو تو مطلقاً حرام اقوال قبور اقرباً خصوصاً بحال قرب عبد ممات تجدید یہ حزن لازم نہ ہے اور مزارات اولیاء کرام پر حاضری میں احمدے الشناعیں کا اندریشہ یا ترک ادب یا ادب میں افراط ناجائز تو سبیل الطلاق منع ہے وہندہ اغتنیہ میں کراہت پر جزم فرمایا البتہ حاضری و خاک بوی آستان عرش نشان سرکار اعظم ﷺ عظم المدد و بات بلکہ قریب واجبات ہے اس سے نہ روکیں گے اور تقدیل ادب سکھائیں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

سوال نمبر ۳۵:

علمائے کرام دام فیضہم کا اس مسئلہ میں کیا ارشاد ہے کہ ایک عورت کا شوہر موجود ہے اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا ہو۔ بعض بد چلنی وغیرہ کے خیال سے شوہر کہتا ہے کہ یہ لڑکا میرے نطفہ سے نہیں حرام ہے یہ کہاں تک صحیح ہے۔ میتو تو جروا۔

الجواب:

پچھے کو جوز و جین میں پیدا ہوا سے ولد الحرام نہیں کہہ سکتے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں **الْوَلَدُ لِلْفَرَاشِ وَالْعَاهِرُ الْحَجَرُ** یہاں تک کہ اگر لکھ کے بعد چھ مہینے سے کم میں پیدا ہوا (حالانکہ اس سے کم مدت حمل نہیں ہو سکتی) تو یہ تھہرا اسیں گے کہ پہلے انہوں نے خفیہ لکھ کر لیا تھا یہ پچھے اس لکھ سے ہے جبکہ عورت لکھ سے چھ مہینے بعد ولادت کی دعویٰ کرتی ہو اگرچہ شوہر کم مدعی ہو یہاں تک کہ اگر اس پر گواہ دے گانہ سنے جائیں گے۔ درحقیقت میں ہے

وَلَدَتْ فَأَخْتَلَفَا فِي الْبَدَاةِ فَقَالَتْ نَكْحَتْنِي مِنْدَ نَصْفِ حَوْلٍ وَادْعِي الْأَقْلَ فَالْقَوْلُ لَهَا وَالْوَلَدِيْنِ

بشهادة الظاهر لها بالولادة من نكاح حملها على الصلاح

روالخوارث میں ہے

النسب يحاط لاثاته مهما امکن والمكان هنا بسبق الترور بها سراليمہر  
يسير و جهرا باكثر سمعته ويقع ذلك كثيراً

یہاں تک کہ اگر شوہر دعویٰ کرے کہ یہ بچہ زنا کا ہے اور عورت بھی تصدیق کرے جب بھی نہ مانیں گے اور بچہ کو صحیح النسب جانیں گے کہ صحت نسب بچہ کا حق ہے مال بآپ کو اس کے ابطال کا حق نہیں۔ درختار میں ہے

قذف زوجته او نفی نسب الولد منه و طالبته به لاعن فان ابی حبس فان لاعن لاعت والا جست  
حتی تلاعن او تصدقه فبندفع به اللھان ولا تحدو لاینقى النسب لا نہ حق الولد  
فلا یصدقان فی خطاله . والله تعالیٰ اعلم۔

سوال نمبر ۳۶:

علمائے دین اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں کہ حرامی کفوہ ہوتا ہے یا نہیں اور اس کی امامت کیسی ہے۔ بنیو اور جروا۔

الجواب:

حرامی نکاح میں کفوہیں اور اس کی امامت مکروہ ہے جبکہ وہ موجودین میں سب سے زیادہ نماز و طہارت کا علم نہ رکھتا ہو۔ والله تعالیٰ اعلم۔

سوال نمبر ۳۷:

نکھائے کرام کا اس مسئلے میں کیا حکم ہے کہ نکاح پڑھانے کے وقت چند عورتیں موجود ہوں اور وہ ایجاد و قبول سن لیں تو نکاح ہو جائے گا۔ بنیو اور جروا۔

الجواب:

نکاح کے لئے لازم ہے کہ ایجاد و قبول دو یا ایک مرد و عورتوں کے سامنے ہوا ہو جنہوں نے ایک جلسہ میں دونوں قول نے اور اتنا سمجھے کہ یہ نکاح ہو رہا ہے اور اگر عورت مسلمان ہے تو ان گواہوں کا مسلمان ہونا بھی لازم بغیر اس کے اگر سو بار مرد و عورت باہم ایجاد و قبول کر لیں یا صرف ایک مرد کے سامنے یا دس میں عورتوں کے سامنے جن کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو یا ہزار مردوں کے سامنے مگر ایسی زبان میں جسے وہ نہ سمجھے اور اتنا نہ جانا کہ یہ نکاح ہو رہا ہے تو ہرگز نکاح نہ ہوگا اگرچہ اس کے بعد اپنے نکاح ہو جانا مشہور بھی کریں۔ درختار میں

شرط حضور شاهدین حرین او حرو حررتین مکلفین سامعين و قولهما معا فاهمين انه

نكاح مسلمين لنکاح مسلمة والله تعالیٰ اعلم۔

اگر بغیر اس کے محبت کی تو وہ محبت حرام و گناہ شدید ہے اور جوا ولاد ہو ولد احرام ہے مگر ولد اتر نہیں اس شخص کی اولاد قرار پائے گی۔ درختار ہے

يحب مهر المثل في نكاح فاسد وهو الذي فقد شرائط امان شرائط الصحة كشهود بالوطى  
روالخوارث میں ہے

و حكم الدخول في النكاح الموقوف كالدخل في الفاسد فيسقط الحديث ويثبت

النسب يحب الأقل من المسمى ومن مهر المثل . والله تعالیٰ اعلم .

کیا حکم دیتے ہیں حاکمان ملکہ شریعت کہ حمل کی حالت میں اپنی عورت سے جماع جائز ہے یا نہیں؟ بینو والوں جو روا۔

## الجواب:

عمل میں صحبت جائز ہے۔ وانہی عنہ منسون۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

سوال نمبر ۳۹:

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام و فقہائے عظام اس مسئلہ میں کہ مرد و عورت میاں بی بی کھلاتے ہیں اور اس کی عام شہرت ہے لیکن ان کا نکاح ہونا کسی کو معلوم نہیں تو محض شہرت کی بناء پر ان کو زوج و زوجہ تصور کیا جائے یا نہیں؟ بنیو اتو جروا۔

## الجواب:

وگوں میں عام اشتہار سے بھی لوگوں کے نزدیک نکاح ثابت ہو جاتا ہے۔ یہاں تک ان کے زوج و زوجہ ہونے پر گواہی دینی جائز ہے مگر عند اللہ اگر  
اقعی نکاح ابطور شرع نہ کیا تو وہ زوج و زوجہ نہیں۔ **والمسالة ظاهرة وفي الكتب دائرة كالهداية والدرو شرو حهما۔**

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ان اقوال کے باب میں اول ایک رسالہ میں لکھا ہے کہ شب محرّاج میں حضرت محمد ﷺ کو حضرات پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے عرشِ محلی پر آپنے اوپر سوار کر کے پہنچایا کا ندھاروے کر اور پرجانے کی معاونت کی تھی یہ کام اور پرجانے کا برآق اور جبرائیل علیہ السلام اور رسول کریم ﷺ سے انجام کوئہ پہنچا۔ حضرت غوث العظیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مہم سرانجام کو پہنچائی؟

تیسری: یہ کہ زبیل ارواح کی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے حضرت پیران پیر نے چھین لی گئی۔

پوچھی: یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت غوث اعظم کی روح کو دودھ پلایا ہے؟

پانچوں: اکثر عوام کے عقیدہ میں یہ بات جھی ہوتی ہے کہ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس اقوال کا کیا حال ہے۔ مفصل بیان فرمائے کراچی عظیم اور ثواب کریم پائے اور رفع نزاع میں الفریقین فرمائیں؟

## الجواب:

**اللهم لك الحمد** فقير غفران اللہ تعالیٰ لکلمات چند بھل و سو دنگز ارش کرے کہ اگر چہ فریقین میں کسی کو پسند نہ آئیں مگر یعنہ تعالیٰ حق و انصاف ان سے مجاوز نہیں۔ **والحق ان يتبع والله الہادی الى صراط مستقیم** یہ قول کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نبی ہوتے اگرچہ اپنے مفہوم شرطی پر صحیح و جائز اطلاق ہے کہ بے شک مرتبہ علیہ ریغع حضور پر نور رضی اللہ عنہ طل مرتبہ نبوت ہے خود حضور معلیٰ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قدم میرے جدا کرم (علیہ السلام) نے اٹھایا میں نے وہی قدم رکھا سو اقدام نبوت کے کہ ان میں غیر نبی کا حصہ نہیں۔

از نبی برداشت ن گام از تو بخدا دن قدم      غیر اقدام النبیہ سد ممثاہا الخیام

**الخطاب** میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ رواہ احمد والترمذی والحاک عن عقیقة بن عامر والطبرانی عن

عصمة بن مالک رضی اللہ عنہما دوسری حدیث میں حضرت ابراہیم صاحبزادہ حضور اقدس سید المرسلین صدیق و پیغمبر ہوتے ہوئے۔ رواہ ابن عساکر عن جابر بن عبد اللہ و عن عبد اللہ بن عباس و عن ابی اویی و الناہردی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ علماء نے امام ابو محمد جوہی قدس سرہ کی نسبت کہا ہے کہ اگراب کوئی بھی ہو سکتا تو وہ ہوتے امام ابن حجر عسکری اپنے فتاویٰ حدیثیہ میں فرماتے ہیں۔

قال في شرح المذهب نقلا عن الشیخ الامام المسجع على جلالۃ وصلامہ واماۃ ابی محمد الجوینی الذی قیل في ترجمة لوجازان یبعث اللہ فی هذه الامته نبیاً لکان ابا محمد الجوینی.

مگر ہر حدیث حق ہے ہر حق حدیث نہیں۔ حدیث مانے اور حضور اکرم سید عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف نسبت کرنے کے لئے ثبوت چاہتے ہیں۔ بے ثبوت نسبت جائز نہیں اور قول مذکور ثابت نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ حضرت ام المؤمنین محبوبہ سید المرسلین (صلی اللہ علیہ وسلم) کا روح اقدس سیدنا الغوث الاعظم رضی اللہ عنہ کو دو وہ پلانا۔ بعض مدحیین حضور اے واقعہ خواب بیان کرتے ہیں۔ **کما رایت فی بعض کتبهم التصریح بذالک**۔ اس تقدیر تو اصلاً وجہ استعباً نہیں اور اب اس پر جو کچھ ایز ادا کیا گیا۔ سب بے جا و بے محل ہے اور اگر بیداری ہی میں مانا جاتا ہو تو ہم بلاشبہ عقل ممکن اور شرعاً جائز اور اس میں کوئی استحالہ و کنار استعباً بھی نہیں۔ **ان الله علی کل شیٰ قدیر** نہ ظاہر میں حضرت ام المؤمنین کے پاس شیرنہ ہوتا کچھ اس کے منافی کہ امور خارقة العادة اسباب ظاہریہ پر موقوف نہیں نہ روح عامہ مٹکھمین کے نزدیک مجرمات سے ہے اور فی نفسہا مادیہ کی تاہم مادہ سے اس کا تعلق بدیکی نہ جسم۔ جسم شہادت میں منحصر جسم مثالی بھی کوئی چیز ہے کہ ہزاروں احادیث برزخ وغیرہ اس پر گواہ کی نہ کان شک نہیں کہ روح سفارق کی طرف نصوص متواترہ میں نزول و صعود و وضع و تکمیل وغیرہ اعراض جسم و جسمانیت قطعاً منسوب اور وہ نسبتیں الٰ حق کے نزدیک ظاہر پر متحمل مالتی شعری جب ارواح شہداء کا میہاں جنت کھانا ثابت الترمذی عن کعب بن مالک قال قال رسول الله (صلی اللہ علیہ وسلم) ان ازواج الشہداء فی طیر خضر تعلق من الشمر الجنة دوسری روایت میں ارواح عام المؤمنین کے لئے یہی ارشاد

الامام احمد عن الامام الشافعی عن الامام مالک عن الزہری عن عبد الرحمن بن كعب بن مالک عن ابیه رضی اللہ عنہ عن النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نسمة المومن طائر يعلق فی شجر الجنۃ حتی یرجعه اللہ عن النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) نسمة المومن طائر يعلق فی شجر الجنۃ حتی

یرجعه اللہ الی جسدہ یوم یبعثه

تو دو وہ پینے میں کیا استحالہ ہے حال روح بعد فراق و پیش از تعلق میں فارق کیا ہے۔ آخر حضرت ابراہیم علی ابیہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے صحیح حدیث میں ہے کہ جنت میں دو دایان کی مدت رضاعت پوری کرتی ہیں۔ احمد و مسلم عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) ان ابراہیم ابی وانہ مات فی الشدی وان لی ظرین یکملان رضاعة فی الجنۃ۔ باس ہمہ یہ باتیں تانی استحالہ ثبت و قوع قول تاویل نفل ثابت نہ ہو جراف و بے اصل ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔ زمیل ارواح چھیں لینا خرافات مختروع جہاں سے ہے سیدنا عزرائیل علیہ السلام رسول ملائکہ سے ہیں اور رسول ملائکہ اولیائے بشر سے بالاجماع افضل مسلمان کو ایسے ابا طیل و ابیہ سے احرزاً لازم اللہ الہا وی۔

تفہیم:

مدبای انکار یہ طرز ادا ہے ورنہ ممکن کہ سیدنا عزرائیل علیہ السلام نے کچھ روئیں باراہی قبض فرمائی ہوں اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی دعا سے باذن الہی پھر اپنے اجسام میں پلٹ آئی ہوں کہ احیای مردہ حضور پر نور و دیگر محبو بان خدا سے ایسا ثابت ہے جس کے انکار کی گنجائش نہیں یونہی ممکن کہ حضرت ملک الموت نے بتظر صحائف و اثبات قبض بعض ارواح شروع کیا اور علم الہی میں قضاۓ ابراہیم نہ پایا تھا نہ برکت دعاء محبوب رضی اللہ عنہ قبض سے باز رکھے گئے ہوں۔ امام عارف بالله سیدی عبدالوهاب شعراہی قدس سرہ الریبانی کتاب مستطاب لواقع

لما ضعف ولده احمد و اشرف علی الموت و حضرت عزرائیل لقبض و رحہ قال له  
الشیخ ارجع الی ربک فراجعه فان الامر نسخ فرجع عزرائیل و شفی احمد من  
تلک الضعفة و عاش بعدها ثلثین علماء

یعنی جب ان کے صاحبزادے احمد ناتوان ہو کر قریب مرگ ہوئے اور حضرت عزرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کی روح قبض کرنے آئے۔ حضرت شیخ نے ان سے گزارش کی کہ اپنے رب کی طرف واپس جائیے۔ اس سے پوچھ لجھے کہ حکم موت منسوخ ہو چکا ہے۔ عزرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام پاٹ گئے۔ صاحبزادہ نے شفایاں اس کے بعد تیس سال زندہ رہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

یونہی جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ حضرت جناب افضل اولیاء الحمد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل یا ان کے ہمسر ہیں۔ مگر اب بذہب ہے سچان اللہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امام الاولیاء مرجع العرقاء امیر المؤمنین مولیٰ اسلمین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اکرام و افضل و اتم اکمل ہیں جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی شیعی رافضی مانتے ہیں نہ کہ حضور غوثیت مآب رضی اللہ عنہ کو تفصیل دینی معاذ اللہ اکار آیات قرآنیہ و احادیث صحیح و خرق اجماع امت مرحوم ہے۔ **ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم**۔ یہ مکین اپنے زعم میں سمجھا کر میں نے حق مجتب حضور پر نور سلطان غوثیت رضی اللہ عنہ کا ادا کیا کہ حضور کو ملک مقرب پر غالب یا افضل اصحابہ سے افضل ہتا یا حالانکہ ان بے ہودہ کلمات سے پہلے بیزار ہونے والے حضور سیدنا غوث اعظم ہیں۔ رضی اللہ عنہ و باللہ التوفیق۔

رہا بش معراج میں روح پر فتوح حضور غوث الشفیعین رضی اللہ عنہ کا حاضر ہو کر پائے اقدس حضور سید عالم (علیہ السلام) کے نیچے گردان رکھنا اور وقت رکوب برراق یا صعود عرش بننا شرعاً و عقلتاً اس میں بھی کوئی استحالت نہیں۔ سدرہ انتہی اگر منجھا یے عروج ہے تو باعتبار اجسام پر نظر ارواح عروج روحانی ہزاروں اکابر اولیاء کا منکر بلکہ ما فوق العرش تک ثابت و واقع جس کا انکار نہ کرے گا مگر علوم اولیاء کا منکر بلکہ باوضوسوںے والے کے لئے حدیث میں وارد کہ اس کی روح عرش تک بلند کی جاتی ہے۔ ایسا ہی سجدہ میں سو جانے والے کے حق میں آیا نہ اس قصہ میں معاذ اللہ کوئی بولے تفصیل یا ہمسری حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے لئے نہیں ہے نہ اس کی عبارت یا اشارت سے کوئی ذہن سیم اس طرف جاسکتا ہے کیا عجب سواری برراق سے بھی بھی معنی تراشے جائیں کہ یہاں پر جانے کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام اور رسول کریم علیہ السلام سے انجام کوئہ پہنچا برراق نے یہ ہم سرانجام کو پہنچائی تو در پر وہ اس میں فراق کی تفصیل دینا لازم آتا ہے کہ حضور اقدس (علیہ السلام) پس نیس نہ پہنچ سکے اور برراق پہنچ گیا اسکے ذریعہ سے حضور کی رسائی ہوئی نعوذ باللہ تعالیٰ منہ یا عذر احمدت کے افعال جو بنظر تعظیم و اجلال سلطانیں بجالائے جاتے ہیں کیا ان کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ با دشائیں امور میں عاجز اور ہمارا احتیاج ہے علاوہ بریں کسی بلندی پر جانے کے لئے زینہ بننے سے یہ کیوں کر مفہوم کہ زینہ بننے والا خود بے زینہ وصول پر قادر نہ رہا ہی کو دیکھئے کہ زینہ صعود ہے اور خود اصلًا صعود پر قادر نہیں فرض کیجئے اگر ہنگام بت شکنی حضرت امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ کی عرض قبول فرمائی جاتی اور حضور پر نور افضل صلوٰۃ اللہ تعالیٰ و اکمل تسلیمات علیہ و علی آلہ ان دو شہر مبارک پر دو مرکب کرت گراتے تو کیا اس کا یہ مفاد ہوتا کہ حضور اقدس (علیہ السلام) تو معاذ اللہ اس کا مام میں عاجز اور حضرت مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ قادر تھے۔ غرض ایسے معنی محال نہ ہرگز عبارت قصہ سے مستقاً و نہ اس کے قائلین بے چاروں کو مراد و الله الہادی

الى سبیل الرشاد یہیان تو ابطال استھانہ و ابیات صحت بمعنی امکان کے متعلق تھا۔ اس بیان روایت کی نسبت بقیہ کلام وہ فقیر غفران اللہ تعالیٰ اللہ کے مجلد دوم العطا یا النبویہ فی الفتاویٰ الرضویہ کتاب مسائل شیعی میں مذکور کہ یہ سوال پہلے بھی کیا اور اس کا جواب قدرے مفصل دیا گیا تھا۔ خلاصہ مقصد اس کا بعض زیادت جدیدہ تفسیر یہ کہ اس کی اصل کلمات بعض مشائخ میں مسطور اور اس میں عقلی و شرعی کوئی استھانہ نہیں بلکہ احادیث و اقوال اولیاء علماء میں متعدد بندگان خدا کے لئے ایسا حضور روحانی وار مسلم اپنی صحیح اور ابو داؤد طیلی اسی منہ میں جابر بن عبد اللہ انصاری اور عبد ابن حید بن انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے راوی حضور سید عالم (علیہ السلام) فرماتے ہیں۔

دخلت الجنة وسمعت خشفة فقلت ما هذا قالوا هذا بلال ثم دخلت الجنة وسمعت  
خشیعہ فقلت ما هذا قالوا اهذا الغمیصاء بنت ملحان .....  
میں جنت میں داخل ہوا تو ایک بچل سنی میں نے پوچھا۔ یہ کیا ہے۔ ملائکہ نے عرض کیا یہ بلال ہیں۔ پھر تشریف لے گیا تکلیف سنی پوچھا کہا غمیصان

ملحان یعنی ام سلیم مادر انس رضی اللہ عنہا ان کا انتقال خلافت امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ میں ہوا۔ **کما ذکرہ الحافظ فی التقریب** .  
امام احمد و ابو یعلیٰ بن سعید حضرت عبداللہ بن عباس اور طبرانی کی بزرگ اور انہیں عذری کامل میں بند حسن ابو امامہ باطلی رضی اللہ عنہم سے راوی حضور اقدس  
**(علیہ السلام)** فرماتے ہیں

**دخلت الجنة ليلة اسرى بى فسمعت فى جانبها وجساً فقلت يا جبرايل ما هذا  
قال هذا بلال المودن .....**

میں شب مراعج جنت میں تشریف لے گیا اور اس کے گوشہ میں ایک نرم آواز سنی پوچھا۔ اے جبرايل یہ کیا ہے عرض کی یہ بلال موزن ہیں رضی اللہ عنہ  
امام احمد و مسلم و نائی انس رضی اللہ عنہ سے راوی۔ حضور والا صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں۔

**دخلت الجنة فسمعت خشقة بين يدي فقلت ما هذا الخشقة فقيل الغميصابت ملحان**

میں بہشت رونق افروز ہوا پہنچ گھٹانا۔ پوچھایہ کیا ہے عرض کی گئی **غمیصابت ملحان** . امام احمد و نائی مأکم بسانید صحیح ام المؤمنین  
حمدیقہ رضی اللہ عنہ سے راوی حضور سید المرسلین **(علیہ السلام)** فرماتے ہیں۔

**دخلت الجنة فسمعت فيها تراة فقلت من هذا قالوا احارة بن النعمان كذاكم البر كذاكم**

البر میں بہشت میں جلوہ فرماء ہوا ہاں قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ پوچھایہ کون ہے فرشتوں نے عرض کی حارثہ بن الصمان تکی ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہ  
حارثہ رضی اللہ عنہ را ہی جتنا ہوئے۔ **قاله ابن سعد في اطبقات ذكره الحافظ في الاصابة** ابن سعد طبقات میں ابو بکر عدوی  
سے مرسلاً راوی حضور سید العالمین **(علیہ السلام)** فرماتے ہیں **دخلت الجنة فسمعت نحمة من نعيم** میں جنت میں تشریف فرماء ہوا تو  
نعمیم کی کھکارنی۔ یحییٰ بن عبد اللہ درودی معرف بن حام (کہ اسی حدیث کی وجہ سے ان کا یہ عرف قرار پایا۔ خلافت امیر المؤمنین فاروق عظیم رضی اللہ عنہ  
میں جنگ اجتادین میں شہید ہوئے۔

**كما ذكره موسى بن عقبة في المغازى عن الزهرى وكذا قاله ابن اسحاق**

**ومصعب الزبيرى واخرون كما في الاصابة**

سبحان اللہ جب احادیث صحیحہ سے احیائے عالم شہادت کا حضور ثابت تو عالم ارواح سے بعض ارواح قدسیہ کا حضور کیا۔ دور امام ابو بکر ابن ابی الدنيا ابو  
المغارق سے مرسلاً راوی حضور پر نور **(علیہ السلام)** فرماتے ہیں۔

**مررت ليله اسرى برجل مغیب في نور العرش قلت من هذا ملک قيل لا قلت نبى قيل  
لاقلت من هو قال هذا رجل كان في الدنيا لسانه رطب من ذكر الله تعالى وقبله  
معلق بالمساجد ولم يسلب لوالديه .....**

قط یعنی شب اسرا میرا گز را ایک مرد پر ہوا کہ عرش کے نور میں غائب تھا میں نے فرمایا یہ کون ہے کوئی فرشتہ ہے عرض کی گئی نہ میں نے فرمایا نبی ہے عرض  
کی گئی نہ۔ میں نے فرمایا یہ کون ہے عرض کرنے والے نے عرض کی۔ یہ ایک مرد ہے کہ دنیا میں اس کی زبان یادا ہی سے ترجمی اور دل مسجدوں سے لگا ہوا  
اور (اس نے کسی کے ماں باپ کو برا کر کر) کبھی اپنے ماں باپ کو برانہ کہلوایا) ثم اقول وبالله التوفيق کیوں راہ دور سے مقصد فرب کا

شان دیجئے فیاض قادریت جوش پر ہے۔ حدیث مرفوع مروی کتب مشہودہ ائمہ محدثین سے ثابت کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ مجھے اپنے تمام مریدین و اصحاب و غلامان بارگاہ آسمان قباب کے شب اسرائیل پر مہربانی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور اقدس کے ہمراہ بیت المغور میں گئے۔ وہاں حضور پر نور کے پیچے نماز پڑھی۔ حضور کے ساتھ باہر تشریف لائے۔

**والحمد لله رب العالمين** اب ناظر غیر وسیع انظر مجہمانہ پوچھنے گا کہ یہ کیونکہ ہاں ہم سے سنے۔ واللہ الموفق ابن جریر و ابن ابی حاتم و بن اروابی یعلیٰ و ابن مدد ویہ بیقیٰ و ابن عساکر ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث طویل معراج میں راوی حضور اقدس (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں

ثم صعدت الی السماء السابعة فإذا أنا يا ابراهيم الخليل مسنده ظهرة الی البيت المعمور (فذكر الحديث ان قال ) واذا بامتنى شطرين شطر عليهم ثياب بيض كانها القراطيس وشطر عليهم ثياب ومدفدخلت البيت المعمور ودخل معى الدين عليهم الشيماب وحجب الاخرون الذين عليهم الثياب (مدوهم على خير فصليت انا ومن المؤمنين في البيت).

پھر میں ساتویں آسمان پر تشریف لے گیا تاگاہ وہاں ابراہیم خلیل اللہ ملے کہ بیت المغور سے پیچھے لگائے تشریف فرمائیں اور تگاہ اپنی امت دو قسم پر پائی۔ ایک قسم کے سپید کپڑے ہیں۔ کاغذ کی طرح اور دوسرا قسم خاکستری لباس میں بیت المغور کے اندر تشریف لے گیا اور میرے وہ سپید پوش بھی گئے۔ میلے کپڑے والے روکے گئے مگر وہ بھی ہیں۔ خیر و خوبی پر پھر میں نے اور میرے ساتھ کے مسلمان نے بیت المغور میں نماز پڑھی۔ پھر میں اور میرے ساتھ والے باہر آئے۔ ظاہر ہے کہ جب ساری امت مرحومہ بغفلہ عزوجل شرف باریاب سے مشرف ہوئی یہاں تک کہ میلے لباس والے بھی تو حضور غوث الوری اور حضور کے مشہبان با صفات بلاشبہ ان اجلے پوشاؤں والوں میں ہیں جنہوں نے حضور حجت عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ بیت المغور میں جانماز پڑھی۔ والحمد لله رب العالمین اب کہاں گئے وہ جا بلانہ استبعاد کہ آج کل کے کم علم مختیوں کے سدرہ ہوئے اور جب یہاں تک کہ محمد اللہ ثابت تو معاملہ۔ قدم میں کیا وجہ انکا رہے کہ نقول مشائخ کو خواہی روکیا جائے۔ ہاں سند محمد ثانی نہیں پھر نہ ہوا یہی جگہ اسی قدر بس ہے سند کی حاجت نہیں۔

کما بیناہ فی رسالتنا هدی الحیران فی لفی الفی عن سمس الاکوان امام جلال الدین سیوطی من اہل الصفائی تحریج احادیث اشفاء میں مرثیہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بابی انت و امی یا رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت فرماتے ہیں

لَمْ اجده فِي شَيْءٍ مِّنْ كِتَابِ الْأَثَرِ لَكُنْ صَاحِبُ اقْتِبَاسِ الْأَنْوَارِ وَابْنِ الْحَاجِ فِي مَدْخَلِهِ ذَكْرًا فِي  
ضَمِّنِ حَدِيثِ طَوِيلٍ كَفِي بِذَالِكَ سَنْدُ الْمُثَلِّهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَتَعَلَّقُ

بالا حکام اور یہ تو کس سے کہا جائے کہ حضرات مشائخ کرام قدس اسرارہم کے علوم اسی طریقہ سند ظاہری حدثاناقلاعن فلاں میں مخصر نہیں وہاں ہزارہا ابواب و سیعہ و اسباب رفیعہ ہیں کہ اس طریقہ ظاہرہ کی وسعت ان میں کسی کے ہزارویں حصہ تک نہیں تو صرف اپنے طریقہ سے نپانے کو ان کو بخوبی کی جگہ جانتا کیسی نا انصافی ہے انسان کی سعادت کبھی ان مدارج عالیہ و معارج غالباً تک وصول ہے ورنہ تقدیم اور اس کی بھی توفیق نہ ملے تو کیا درج تسلیم نہ کر معاذ اللہ انکار و تکذیب کرخت مہلکہ ہاں تک ہے۔ والیاذ باللہ رب العالمین بالجملہ روایت مذکورہ تسلیم نہ عقلانہ اور شرعاً بھور اور کلمات مشائخ میں مسطور و ما ثور اور کتب حدیث میں ذکر معدوم نہ کہ مذکورہ روایات مشائخ اس طریقہ سند ظاہری میں محصور اور قدرت قادر قدر قادری کی بلندی مشہور پھر دو انکار کیا۔ متفقناً ادب و شعور والحمد لله العزیز الخفور واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔

سوال نمبر ۶ :

کیا امامت میں شرعاً و راثت جاری ہے کہ امام مرجعے تو اس کے بعد اسی کی اولاد یا خاندان سے امام ہونا ضروری ہے غیر شخص امام ہوتا ن کے حق میں وسٹ اندازی ہو۔

الجواب:

امامت میں وراثت جاری نہیں ورنہ سہام فرائض پر قسم ہو اور حکم آئی کہ یہ **یوصیکم اللہ فی اولاد کم للذکر مثل خط**

الاشبين . دوہرا حصہ بیٹوں کو ملے اور اکابر بیٹیوں کو اور بحکم آئیہ کریمہ **ولهن الشمن مما ترکتم ان كان لكم ولد**۔ آٹھویں دن کی امامت بی بی کو ملے بلکہ پیٹ کے بچے بھی امامت کا حصہ پائیں کہ شرعاً وارث تودہ بھی ہیں۔ عورت واطفال کا اصلًا اہل امامت نہ ہوتا ہی ویل واضح ہے کہ امامت میں وراثت خاندانی اسی شے میں جاری ہو سکتی ہے جو ہر وارث کو پہنچ کے بلکہ سب معا پہنچا لازم اور امامت میں تعدد حال تو کس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ امام کے بعد اس کے وارثوں ہی میں امامت ضرور ہے۔ یہ صریح جملہ میں ہے۔  
روالخواریں ہے۔

واعتقاد هم ان خیز الادب لابنه لا یفید لما فيه من تغیر حکم الشرح واعطاء الوظائف من تدریس  
وامامة وغيرها الى غيرها مستحقها وكذلك اعتقادهم ان الارشاد اذا فرض في مرض موته لمن  
اداد صح لان مختار الارشد رشد فهو باطل لان الرشد صفة قائمة بالرشيد لاتحصل بمجرد  
اختيار غير له كمالا يصير الجاهل عالما بمجرد اختيار الغير له فطفية التدریس وكل هذه امور  
ناشئه عن الجهل واتباع العادة المخالفه لصريح الحق مجرد تحكم العقل المختل ولا حول ولا  
قوة الا بالله العلي العظيم ملخصاً والله تعالى اعلم .

#### سوال نمبر ۴ :

امامت اصل علمائے حق دین کا ہے یا جاہلوں کا؟

الجواب:

امامت اصل حق حضور پرنسپل مسلمین (علیہ السلام) کا ہے کہ نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے۔ **قال الله تعالى اني جاعلك للناس اماما اور حضور اقدس (علیہ السلام) تو نبی الاممیہ امام ائمہ ہیں۔ (علیہ السلام)** اور ہر عاقل جانتا ہے کہ جہاں اصل تشریف فرمانہ ہو وہاں اس کا نائب ہی قائم ہو گا.....  
نہ کہ غیر اور تمام مسلمان آگاہ ہیں کہ علمائے دین ہی نہیں حضور سید العالمین (علیہ السلام) ہیں نہ کہ جہاں تو امامت خاص حق علماء ہے جس میں جہاں کو ان سے منازعہ کا اصل حق نہیں والہذا علمائے کرام نے تصریح فرمائی کہ حق بالامامة اعلم قول ہے۔ تعریف الابصار و دریافت وغیرہ میں ہے **الاحق بالا**  
**مدة تقديمًا بل نصام جمع الانهر الاعلم باحكام الصلة و الله تعالى اعلم .**

#### سوال نمبر ۵ :

اگرامت کے لئے شرعاً حق والیق علماء ہیں تو جو لوگ عالم دین صالح متنین جامع جملہ شرائط امام کے ہوتے ہوئے جاہلوں کو امام بنائیں یا اس میں کوشش کریں ان پر شرعاً الزام ہے یا نہیں۔ بنیورا تو جروا؟

الجواب:

بے شک جو عالم دین کے مقابلے میں جاہلوں کو امام بنانے کی کوشش کرے۔ وہ شریعت مطہرہ کا مخالف اور اللہ و رسول اور مسلمانوں کا خائن ہے۔ حاکم و عقیلی و طبرانی و ابن عذری و خطیب بغدادی نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی حضور پرنسپل (علیہ السلام) نے فرمایا۔

من استعمل رجالاً من عصابة وفيهم من هو رضي الله منه فقد خان الله ورسوله المؤمنين

جو کسی جماعت سے ایک شخص کو کام پر مقرر کرے اور ان میں وہ موجود ہو جو اللہ عزوجل کو اس سے زیادہ پسند ہے بے شک اس نے اللہ و رسول اور مسلمانوں کی خیانت کی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### سوال نمبر ۶ :

اگر یہ لوگ اپنے اوپر عالم دین کی ترجیح دفع کرنے کو حدیث و مسئلہ تجویز الصلة خلف کل بر فاجر پیش کریں تو ان کا یہ استدلال صحیح ہے یا باطن۔ بنیورا تو جروا؟

## الجواب:

زید نہائے خلافت میں سلاطین خود امامت کرتے۔ حضور عالم ماکان و ما یکون (صلی اللہ علیہ وسلم) کو معلوم تھا کہ ان میں فساق و فراری بھی ہوں گے کہ **ستکون علیکم امراء یو خرون الصلة عزو و قها** اور معلوم تھا ان سے اختلاف آتش فتنہ کو مشتعل کرنے والا ہو گا اور دفع فتنہ دفع اقتداء فاسق ہے اور اہم و اعظم تھا **قال الله تعالیٰ والفتنة اکبر من القتل لہذا دروازہ فتنہ بند کرنے کے لئے ارشاد ہوا کہ صلو اخالف کل برو فاجر اسی معنی پر ہے جو اور گزرے کہ نماز فاسق کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے اگرچہ غیر معلم کے پیچھے مکروہ تہذیبی اور معلم کے پیچھے مکروہ تحریکی ہے مگر ان مدعاویوں کے لئے اسی حدیث و مسئلہ فتنہ میں کوئی جھٹ و سند نہیں نفس جواز و صحت سے مساوات کیونکہ لٹکی کہ منافی ترجیح ہو اللہ عز وجل فرماتا ہے **اما نجعل المتقين كالفحار** فتحاۓ برادر تصریح فرماتے ہیں کہ امامت کا حق علم قوم ہے اور فاسق کے پیچھے نماز مکروہ پھر جواز بھی غیر نماز جمعہ عیدین و کسوف میں ہے ان نمازوں کی شرط تو وہ تھک ہے کہ بے امامت عامہ بمعنی ذکر کسی صالح مقنی کے پیچھے بھی نہیں ہو سکتیں۔ **کم****

**اتقدم بیانہ** پھر عجب تناقض ہے کہ اپنا استحقاج تھا کے لئے تو امامت خاص اپنے خاندان میں محصور کر دیں کہ خاندان کے باہر کسی عالم دین کی ترجیح دفع کرنے کو کل برو فاجر کے عموم کا دامن تھا۔ میں اور اسی امامت کو ہر نیک و بد کا مساوی حق قرار دیں جب ہر صالح و طالع اس میں یکساں ہے تو تمہارے خاندان کی خصوصیت کہاں ہے اور جب ہر فاسق و بد کار کے پیچھے روانہ تاریخ ہے ہو تو عالم دین صالح فتنہ سے کیوں ابختہ ہو معلوم ہوا کہ اپنے ہوئے نفس کے پیرو ہو۔ باقی بس۔ اللہ تعالیٰ اتباع شرع و اطاعت علمائے دین کی توفیق بخشنے آمین۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

## سوال نمبر ۵۰:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین اس مسئلہ میں کہ مکان موقوف مدرسہ کے بغرض نفوع مدرسہ کرایہ پر یا کاشت کے واسطے دینا یا اس کو فروخت کر کے کسی دوسرا جگہ مکان مدرسہ نہ انادیگیر مصارف مدرسہ میں اس کی قیمت لانا درست ہے یا نہیں۔ بنیو تو جروا۔

## الجواب:

مکان موقوف بلا ضرورت شدیدہ شریعتیّ کر بدلنا حرام اس کی آمدی دوسرے مصارف مدرسہ میں صرف کرنا مطلقاً حرام بے ضرورت شدیدہ شریعت اسے کرایہ یا کاشت پر دینا حرام۔ ہاں بحالت مجبوری اس کا کوئی جز کرائے پر تاریخ ضرورت دے سکتے ہیں۔ **والمسائل فی الدر والفتح** وغیرہما۔ و اللہ تعالیٰ اعلم۔

## سوال نمبر ۵۱:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین اس مسئلہ میں کہ ہبہ باوصیت علی الورث مرض الموت میں درست ہے یا نہیں؟

## الجواب:

بے اجازت دیگر و ثانہ نافذ نہیں تواریخ میں ہے۔

اسی میں ہے **هبة کو هية** اسی میں ہے صحت لا لوارثه الاباجازة ورثة وهو کبار۔ واللہ تعالیٰ اعلم

## سوال نمبر ۵۲:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متنین اس مسئلہ میں کہ نابالغوں کے لئے حد بلوغ کیا ہے۔ مرد ہوں یا عورت؟

## الجواب:

لڑکا بارہ اور لڑکی نو برس سے کم عمر تک ہرگز بالغ و بالغہ ہوں گے اور لڑکا لڑکی دونوں پندرہ سال کامل کی عمر پر ضرور شرعاً بالغ و بالغہ ہیں اگرچہ آثار بلوغ کچھ ظاہر نہ ہوں ان عمروں کے آثار پائے جائیں، یعنی لڑکے خواہ لڑکی کو سوتے جائے میں ازالہ ہو یا لڑکی کو حیض آئے یا جماع سے لڑکا حاملہ کر دے یا لڑکی کو حمل رہ جائے تو یقیناً بالغ و بالغہ سمجھے جائیں گے اور تمام احکام بلوغ کے نفاذ پائیں گے۔ اور اگر ظاہر حال ان کا مذنب ہو تو نہ مانجاۓ گا اور نابالغ تصور کئے جائیں گے آثار مذکورہ کے سوابعل یا پنڈلی یا پیڑو پر بالوں کا جنایا لڑکے کی واڑھی موجود ہکتنا یا لڑکی کی پشتان میں ابھار پیدا ہونا کچھ معتبر نہیں۔

## سوال نمبر ۵۳:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ پانی بارش کا جو خاص شہر میں برستا ہے اور نالی وغیرہ دھوکر باہر چلا جاتا ہے۔ پاک ہے یا نہیں۔ اس پانی کو جاری کہیں گے یا نہیں بنیو تو جروا؟

جس وقت بارش ہو رہی ہے اور پانی بہر رہا ہے ضرور ماء جاری ہے اور ہرگز ناپاک نہیں ہو سکتا جب تک نجاست کی کوئی صفت مثلاً گنگت اس میں ظاہر نہ ہو صرف نجاست کا موجب نہیں۔ **فَإِنَّ الْمَاءَ الْجَارِيَ يَطْهُرُ بَعْضَهُ بَعْضًا** رہا اس سے وضواگر کسی نجاست مرئیہ کے اس میں ایسے بہتے گا جار ہے ہیں کہ جو حصہ پانی کا اس سے لیا جائے۔ ایک آدھ ذرہ اس میں بھی آجائے گا جب تو یقیناً حرام و ناجائز وضونہ ہو گا اور بدنه ناپاک ہو جائے گا کہ حکم طہارت بوجہ جریان منقطع ہوا اور نجاست کا ذرہ موجوداب پانی نجس ہو گیا اور اگر ایسا نہیں جب بھی بلا ضرورت اس سے احتراز چاہیئے کہ نالیوں کا پانی غالباً اجزائی نجاست سے خالی نہیں ہوتا اور عام طبائع میں اس کا استقدار یعنی گھن کرنا اسے ناپسند رکھنا ہے اور ایسے امور سے شرعاً احتراز مطلوب۔

حادیث میں ہے۔ **إِنَّمَا يُحِلُّ لِلنَّاسِ مَا يَرَوْا وَمَا يَنْفَرُوا** اور اگر بارش ہو چکی اور پانی نمہر گیا اور اب اس میں بعض اجزاء نجاست ظاہر ہیں یا ناتی کے پیش میں نجاست کی رنگت یا بوچی اور بارش اتنی نہ ہوئی کہ اسے بالکل صاف کر دیتی۔ انقطاع کے بعد وہ رنگت یا بوہنوز باقی ہے تو اب یہ پانی ناپاک ہے اور اگر ناتی صاف تھی یا مینے بالکل صاف کروی اور پانی میں بھی کوئی جزو نجاست محسوس نہیں ہوتی تو پاک ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

#### سوال نمبر ۵۴:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع میں اس مسئلہ کو چند غریب مسلمانوں نے آپس میں چندہ کر کے ایک مسجد خام بنوائی اور بوجہ علمی مٹی میں کچھ حصہ گوپر ملا کر دیواروں میں پلاسٹر کر دیا اور بعد وقیت اس پلاسٹر پر بالو کا پلاسٹر بھی کر دیا مگر اب بھی بعض لوگ اس میں نماز کو منع کرتے ہیں۔ اس صورت میں آئماز اس میں جائز ہے یا نہیں۔ یعنی تو جروا؟

#### الجواب:

اس مسجد میں نماز جائز ہونا تو یقینی ہے جس میں اصل محل ہبہ نہیں۔ دیواروں پر جو مٹی لگائی گئی اس میں گوبر کے خلط سے نہ وہ مسجد مسجدیت سے خارج ہو گئی نہ اس کی زمین کو محل نماز ہے ناپاک وہ ناقابل نماز ہو گئی صرف قرب نجاست سے ایک نوع کی کراہت تھی کہ اوپر کے پاک پلاسٹر سے وہ بھی جاتی رہی۔ اس میں نماز سے منع کرنا مسجد شرعی کی تعطیل و تحریب ہے کہ ہرگز جائز نہیں۔ **قَالَ تَعَالَىٰ وَمِنَ الظُّلْمِ مَمْنُوعٌ مَسْجِدُ اللَّهِ إِنْ**

**يَذْكُرُ فِيهَا اسْمَهُ وَسُعِيٌّ فِيْ خَرَابِهَا .** ہاں یہ ضرور ہے کہ نجاست سے مسجد کی تعطیل و تعطیف اہم واجبات شرعیہ سے ہے دیوار اگرچہ حقیقتاً جزو مسجد نہیں اوصاف ہیں مگر کالج ضرور ہیں۔ جیسے حیوان کے لئے اس کے ہاتھ پاؤں اور تعطیل و تعطیف تو قوای مسجد کی بھی واجب ہے نہ کہ دیوار ہائے مسجد اور اس کا طریقہ یہ نہ تھا جو بر تاگیا کہ اوپر سے پاک پلاسٹر کر دیا بلکہ لازم ہے کہ ان تمام اجزائی نجاست کو یکسر چھیل کر صاف کر دیں اس کے بعد پھر کھل پلاسٹر گپکاری جو چاہیں کریں **وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَعِلْمِهِ جَلَّ وَاتَّمَ حَكْمُهُ .**